

556

157


# فیوضات غوثیہ



کتاب خانہ غوثیہ مہرئیہ جی۔ پی۔ روڈ جادہ جہلم

HAKEEF





557

ایک قریشی، ہاشمی، علوی

علمی اور درویش خاندان کی سوانح حیات

# فیوضات

ترتیب و تالیف

۱۔ ابوالفتح قاضی غلام محمد ہزاروی قاضی، مدرسہ جامعہ ہندسہ

حال خطیب جامع مسجد عید گاہ جہلم

۲۔ مفتی سیف الرحمن ہزاروی۔

۳۔ مولوی غلام سرور۔ جادوی جہلمی

ناشر

کتاب خانہ غوثیہ فہرہ جی ٹی روڈ جادوہ جہلم

53219

حضرت مرزا شیخ گل بیگ صاحب رحمۃ اللہ علیہ

حضرت شیخ عبدالرزاق صاحب قطب وقت برتھ ہونگے

مولانا اعظم دین صاحب

عقارہ ستارہ بیگم

مولانا محمد عزت صاحب

برادر اعیانی مولوی محمد عزت

دختران تہار شاہ جمال بیگم ماہ تہا لکیم  
محمدشان معزز بیگم بیگم ممتاز مستوفانہ

مولوی محمد  
بیتل صاحبہ

مولوی محمد ضیاء  
صاحبہ

مولوی عبد الجبار  
صاحب

قاضی محمد عبدالسیاح  
آہستہ لگان موجود

دو دختران متوفانہ

دو دختران  
موجود

قاضی شام محمود  
موجود

قاضی سیف الرحمن  
موجود

دو دختران  
موجود

دو دختران  
موجود

دو دختران  
موجود

دو دختران  
موجود

خان بیگم

مولوی محمد اظہار  
صاحب

بزرگ الدین صاحب

ڈاکٹر سعید محمود  
صاحب

عبدالرشید

عبدالرزاق ترقی

۳ لڑکے

حضرت مرزا شیخ گل بیگ صاحب کے اسم مبارک  
ہم سے ان کی ریاست اور معزز شخصیت ظاہر ہو  
سکتے ہیں۔ مگر اسنو اس کے ان کے حالات معلوم نہیں ہو سکتے

منشی محمد عبدالرزاق صاحب صاحبہ، اظہار، مولانا اعظم دین صاحب، خان بیگم، مولانا محمد عزت صاحب، برادر اعیانی مولوی محمد عزت، مولانا محمد اظہار صاحب، خان بیگم، مولانا محمد عزت صاحب، بزرگ الدین صاحب، ڈاکٹر سعید محمود صاحب، عبدالرشید، عبدالرزاق ترقی

از قلم مولوی غلام سرور جادوی جہلمی غفرلہ  
 علامہ زماں فرزدوران شیخ الحدیث ابوالفتح علامہ قاضی غلام محمود صاحب محدث ہزاروی  
 علامہ عالی فرماتے ہیں کہ ہمارے جد اعلیٰ حضرت مرزا شیخ گل بیگ صاحب رحمۃ اللہ علیہ  
 وادی کاغان کے کسی قریبی دیہات سے تشریف لائے اور موضع کھلاہٹ میں آکر آباد ہوئے  
 یہ بزرگ گاؤں کی ابتدائی آبادی کے وقت تشریف لائے تھے۔ حضرت علامہ مفتی سیف الرحمن  
 صاحب ہزاروی نے فرمایا کہ ہمارے پاس انگریزی کاغذات موجود ہیں جن میں سے ایک  
 صورت دیہی ہے۔ جس میں ہمارے بزرگوں کا مکمل شجرہ نسب درج ہے اور اس کے نیچے  
 فٹ نوٹ ہے جس کا مضمون یہ ہے۔

اس خاندان کا بڑا گاؤں کی ابتدائی آبادی کے وقت آکر اس گاؤں میں آباد ہوڑا اور  
 لوگوں کا پیشوا مقرر ہوڑا۔

اور آج تک اس خاندان کو لوگ اپنا پیشوا اور بزرگ تسلیم کرتے ہیں۔ اور اس کے  
 تقدس و عظمت کے بے حد معتقد ہیں۔ حضرت مرزا شیخ گل بیگ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے  
 صاحبزادے حضرت شیخ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ لوگوں میں انخوند کے نام سے مشہور تھے  
 حضرت علامہ قاضی صاحب اور حضرت علامہ مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ بزرگوں سے  
 سنا گیا ہے کہ ہمارے کنوئیں کے متصل درخت نارنج والا قطعہ زمین ان کے وقت سے ورثہ  
 بورٹ چلا آ رہا ہے۔ بسا اوقات اس زمین میں جمعرات کو روشنی دیکھی گئی ہے۔

کہتے ہیں کہ حضرت شیخ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی پانچ سو گائیں تھیں۔ جو  
 کسی نگران اور محافظ کے بغیر خود بخود قریبی پہاڑ میں چر کر اپنے ڈیرے پر واپس آ جاتی تھیں  
 اور راستے میں آتے جاتے کسی کا کچھ نقصان نہیں کرتی تھیں۔ بعض معتبر اشخاص مثلاً انجیاٹ خان  
 یا بامرحوم کھلاہٹ کی زبانی معلوم ہوڑا ہے۔ کہ انہوں نے بیداری میں اذان فجر کے بعد پانچ  
 تیز رفتار گھوڑے دیکھے کہ جن پر پانچ آدمی سوار تھے۔ پہلے گھوڑے پر حضرت شاہ شہیر  
 صاحب غازی رحمۃ اللہ علیہ داڑھی والے۔ دوسرے پر حضرت بابا حقانی شاہ صاحب رحمۃ  
 اللہ علیہ پہاڑ والے۔ تیسرے پر پہاڑے چہاڑ والے بزرگ رحمۃ اللہ علیہ۔ چوتھے پر حضرت  
 شاہ فتح خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ اور پانچویں پر شیخ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ

حضرت قیدہ قاضی صاحب کے جدِ امجد

**ضروری نوٹ** یہاں چند باتیں یاد رکھنے کے قابل ہیں، (۱) حضرت بابا حقانی

شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ رشتہ میں حضرت شاہ شیر محمد صاحب

غازی رحمۃ اللہ علیہ کے چچا ہیں۔ اول الذکر بزرگ نقشبندی طریقہ رکھتے ہیں۔ اور ثانی الذکر بزرگ چشتی طریقہ کے حامل ہیں اور دونوں صاحب کرامات بزرگ ہیں۔

۱) پہاڑے چھاڑ والے بزرگ نسباً گجر تھے۔ اور پھوٹی عمر کے تھے کہ حضرت شاہ شیر محمد غازی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جایا کرتے تھے اور حضرت کو دودھ لاکر دیا کرتے تھے۔ اور اکثر خدمت کی خدمت میں بیٹھے رہتے تھے۔ گھر والے خصوصاً والد ناراض ہوتے مگر ان کے عشق و محبت میں کوئی فرق نہ آتا۔ ایک دن دیت روٹی لائے۔ والد نے جب دیکھا تو لاسٹی لے کر پیچھے دوڑا اور یہ بھاگ کر درختوں اور جھاڑیوں کے جھنڈ میں دوڑتے ہوئے تیزی سے چھلانگ لگا کر وہیں زندہ غائب ہو گئے۔ یہ مقام موضع کھلابٹ سے مغرب کی جانب پشیموں کے قریب ہے۔

۲) حضرت شاہ فتح خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مزار پرانوار سیکسلا میں ہے۔ اور

زیارت گاہ خلائق ہے۔ بیرون کھلابٹ جنوب کی طرف ان کی بیٹھک ہے۔ لوگوں میں مشہور ہے کہ حضرت یہاں آکر بیٹھتے تھے۔ بیٹھک کے آس پاس بارہ کھال زینے ہیں۔ آج تک کوئی اسے کاشت نہیں کر سکا۔ اس میں بہت سے درخت ہیں کسی کو ان کے کاٹنے کی جرأت نہیں ہوتی۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ گاؤں کے ایک رئیس نے وہاں سے پیری کا درخت کاٹا تو وہیں اسے پاؤں میں خارش ہوئی اور باریک سی پھنسی نمودار ہوئی۔ جو رفتہ رفتہ بڑا پھوڑا بن کر پوری ٹانگ پر پھیل گئی۔ جس کی وجہ کی سے وہ ہلاک ہو گیا۔ اس کے بعد لوگ اور زیادہ ڈر گئے۔ اور وہاں کی چیزوں سے چھیر چھاڑ بالکل چھوڑ دی۔ حضرت شاہ فتح خان صاحب علیہ الرحمۃ کی جاٹ نشست میں جو درخت ہیں ان سے بخار والے مریض چھال اتار کر گلے میں ڈالتے ہیں۔ تو انہیں اللہ تعالیٰ شفا عطا فرماتا ہے۔ یہ بات عام لوگوں کے تجربہ میں آچکی ہے۔ جس میں کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔

حضرت علامہ مفتی سیف الرحمن صاحب ہزاروی کے جد امجد حضرت عبدالعزیز صاحب  
الرحمۃ کے ساتھ قطب الاقطاب حضرت شاہ شیر محمد صاحب غازی علیہ الرحمۃ کو  
بہت محبت تھی۔ جس کی وجہ سے ان کو روحانی طور پر ہمیشہ ساتھ رکھتے تھے۔ ان بزرگوں  
کی صحبت کا کام بارہا مشاہدہ کر چکے ہیں۔

رہا قطب الاقطاب حضرت شاہ شیر محمد صاحب غازی علیہ الرحمۃ کا مزار پر انوار  
ارسی نامی گاؤں کے متصل مرجع خلافت ہے۔ دور دراز سے لوگ زیارت کے لئے آتے  
تھے ہیں۔ ہر جمعرات کو مزار پر لوگوں کا اچھا خاصا ہجوم ہوتا ہے۔ دو قسم کے مریض وہاں  
کثرت سے دیکھے جاتے ہیں (۱) اندھے (۲) کوڑھی۔ یہ لوگ نہیوں مزار شریف پر رہتے  
ہیں اور حضرت کے طفیل اللہ تعالیٰ انہیں شفا عطا فرماتا ہے۔ لوگوں میں مشہور ہے کہ  
کوسات جمعرات لگاتار حضرت کے مزار پر جائے تو حضرت کی برکت سے ٹھیک ہو جاتا  
ہے۔ حضرت کے مزار پر آنکھوں کے مریض تو اب بھی کثرت سے جاتے ہیں اور شفا پاب  
ہوتے ہیں۔ سیکڑوں واقعات اس قسم کے مریضوں کے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں۔  
البتہ اب کوڑھی کچھ کم جاتے ہیں۔ نہ معلوم اس کی کیا وجہ ہے۔ بہر حال جو جاتے ہیں ان  
کو فیض ضرور ہوتا ہے۔ حضرت کی سخاوت میں کوئی فرق نہیں آیا۔ ہاں البتہ اعتقاد  
مضبوط ہے۔

حضرت علامہ مفتی سیف الرحمن صاحب ہزاروی کہتے ہیں۔ کہ ہمارے گاؤں  
کھلیٹ کے ایک شخص کا لانا نامی راجو کہ خان محمد زمان خان صاحب کا گھوڑے بان تھا  
کی نظر کسی عارضہ کی وجہ سے جاتی رہی۔ لوگوں نے اسے ڈاکٹروں کے پاس جانے کو کہا  
مگر روحانی طبیب شاہ شیر محمد صاحب غازی علیہ الرحمۃ کے مزار شریف پر چند ماہ لگاتار  
جانتا رہا۔ کچھ ماہ جانے کے بعد گاؤں والوں نے دیکھا کہ اس کی نظر بالکل ٹھیک ہو گئی  
ہے۔ آنکھوں میں از سر نو بینائی لوٹ آئی۔ بعد میں اس نے جانا ترک کر دیا اور دنیا  
کے کاروبار میں مشغول ہو گیا۔ اس کو متنبہ بھی کیا گیا۔ مگر باز نہ آیا۔ آخر پھر بینائی  
وہاں پہنچا۔ پھر اس کو ہوش آیا۔ اور پھر مزار شریف پر جا کر سخت رویا اور عرض کی کہ آئندہ



کبھی ایسا نہیں کروں گا۔ رات کو سو یا۔ جب صبح اٹھا تو اس کی نظر بالکل ٹھیک تھی۔  
 حضرت علامہ مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ ایک شخص بابا صبغتہ اللہ کی نظر بھی  
 کسی وجہ سے جاتی رہی تھی وہ حضرت کے مزار شریف پر حاضر ہوا اور عرض کی کہ  
 اگر مجھے اللہ تعالیٰ نے نظر دے دی تو میں آپ کے مزار پر قرآن پاک ختم کروں گا۔  
 آخر اس کی نظر ٹھیک ہو گئی اور اس نے حضرت کے مزار پر قرآن پاک ختم  
 کیا۔ حضرت نے اس بابا صبغتہ اللہ کو فرمایا کہ تمہاری آواز پیاری ہے تم یہاں ہی  
 رہو اور میرے پاس قرآن پاک پڑھتے رہو۔ بابا صبغتہ اللہ نے اس کی خاص پروا  
 نہ کی اور واپس جانے کے لئے روانہ ہوا۔ تھوڑی دوری پہنچا تھا کہ اس کی نظر  
 دوبارہ جاتی رہی۔ پھر وہ حضرت کے مزار پر حاضر ہوا اور آکر دعا کی اور اس  
 کو شفا مل گئی۔ پھر وہ واپس لوٹا تو اس کی نظر پھر بند ہو گئی۔ حضرت کے مزار  
 پر آکر دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے پھر اسے بینائی دے دی۔ چند دفعہ ایسا کرنے  
 کے بعد آخر اس شخص نے وہاں ہی قیام اختیار کیا۔ اور آخر وقت تک وہاں ہی  
 رہا۔ پھر وہیں فوت ہوا اور وہیں اس کی قبر بنی۔

معلوم ہو کہ آنکھوں کے مریض وہاں کے درخت پھلائی کے پتے گھوٹ کر  
 ان کا پانی آنکھوں میں ڈالتے ہیں۔ نیز وہاں کے چراغوں کی سیاہی بھی آنکھوں  
 میں لگاتے ہیں تو یہ بھی ان کی خراب آنکھوں کی شفا کا ذریعہ بنتی ہیں۔

حضرت شاہ شہیر محمد غازی علیہ الرحمۃ مشہد شریف (ایران) سے تشریف لائے  
 تھے۔ ان کے مرشد برحق شیخ المشائخ حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ  
 اللہ علیہ ہیں۔ جو سلطان الاولیاء حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ  
 کے خلیفہ تھے، تو اس طرح حضرت شاہ شہیر محمد غازی رحمۃ اللہ علیہ چشتی خاندان  
 کے چشم چراغ ہیں۔ جب آپ اس علاقہ میں تشریف لائے تو پانچ سو طالب علم آپ  
 کے ہمراہ تھے۔ دارمی نامی گاؤں میں جس مکان کے اندر آپ کا قیام تھا اس میں کوانچ  
 کا درخت تھا۔ وہاں اب بھی اس درخت کی ہڑوں سے پھوٹا ہوا کوانچ کا درخت

موجود ہے۔ حضرت شیخ عبدالعزیز صاحب علیہ الرحمۃ کا مزار شریف کھلابٹ کے قبرستان  
 مہرون پر بیریاں والا قبرستان میں واقع ہے۔ حضرت شاہ شیر محمد صاحب غازی رحمۃ اللہ علیہ  
 کا مزار شریف سے علامہ قاضی صاحب مدظلہ العالی کے خاندان کو بہت فیض پہنچا ہے۔ حضرت  
 علامہ قاضی غلام محمود صاحب خطیب اعظم جہلم فرماتے ہیں کہ ہمارے دادا حضرت مولانا منظر جیل  
 صاحب رحمۃ اللہ علیہ فقہ کی مشہور کتاب ہدایہ لے کر آپ کے مزار شریف پر حاضر ہوا کرتے تھے  
 تو آپ نے خواب میں دیکھا کہ حضرت شاہ شیر محمد صاحب علیہ الرحمۃ نے سفید مرغ آپ کو  
 دیا ہے۔ اور حضرت علامہ مفتی سیف الرحمن صاحب ہزاروی یوں فرماتے ہیں کہ حضرت دادا  
 صاحب علیہ الرحمۃ نے خواب میں دیکھا کہ حضرت شاہ شیر محمد صاحب علیہ الرحمۃ تشریف فرما  
 ہیں اور اچانک ایک سفید مرغ اڑتے ہوئے ان کے پاس سے گزرا تو شاہ صاحب نے ارشاد  
 فرمایا کہ مولوی صاحب اس کو پکڑ لو۔ پس دادا صاحب نے اس کو پکڑ لیا۔ جب حضرت مولانا  
 محمد مظہر جیل صاحب علیہ الرحمۃ بیدار ہوئے تو اس کی تعبیر فرمائی کہ حضرت شاہ صاحب نے  
 کتاب ہدایہ مجھے دے ڈالی ہے۔ بس یہ اسی روحانی فیض کا نتیجہ تھا کہ آپ فقہ میں بہت  
 بلند پایہ شخصیت کے مالک تھے اور لوگوں میں فقیہ العصر کے ممتاز لقب سے مشہور تھے  
 یوں ہی اس مزار شریف سے علامہ قاضی غلام محمود صاحب اور آپ کے والد صاحب شیخ الاسلام  
 سلطان المناظرین حضرت علامہ قاضی محمد عبدالسبحان صاحب ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی  
 فیض پہنچا ہے۔ حضرت قاضی صاحب فرماتے ہیں کہ ہم کتابیں لے کر کئی دفعہ مطالعہ کے  
 لئے وہاں حاضر می دیتے رہے ہیں اور بہت فیض پاتے رہے ہیں۔

شیخ الاسلام علامہ قاضی محمد عبدالسبحان صاحب علیہ الرحمۃ کے دادا عزت و وقت حضرت  
 مولانا محمد عزت صاحب علیہ الرحمۃ نے حضرت علامہ مولانا مفتی شرف الملک والدین رامپور کا  
 رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھا ہے۔ جو رام پور کی ریاست میں بڑے مفتی اور مدرسہ عالیہ میں  
 صدر مدرس تھے۔ رامپور کی ریاست ایک اسلامی اور علمی ریاست تھی۔ وہاں کے تمام نوابوں  
 کو علوم دینیہ سے بہت شفقت و محبت تھی۔ حضرت علامہ مفتی شرف الملک والدین علیہ الرحمۃ  
 نے اس وقت کے وہابیوں نے عقائد کے بارے میں ایک رسالہ سوالات کئے تھے۔ جن کے

کے جوابات آپ نے تحریر فرمادیئے تھے۔ ان میں سے چالیس سوالات کے جوابات قلم  
حضرت علامہ قبلہ قاضی غلام محمود صاحب ہزاروی کے پاس اب تک موجود ہیں۔ جو کہ  
فارسی زبان میں ہیں۔ اور نہایت اعلیٰ درجہ کی تحقیقات پر مشتمل ہیں۔ علم فلسفہ کی مشہور کتاب  
صدرا کے ایک نہایت مشکل مقام مثنیٰ بالکسر پر مختلف اہل تحقیق نے بارہ تقریریں  
کی ہیں جو مطبع مجتبیٰ (دہلی) ولے صدرا کے آخر میں لگی ہوئی ہیں، ان میں ایک تقریر علامہ  
زماں حضرت مولانا مفتی شرف الملت والدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔

حضرت علامہ قاضی غلام محمود صاحب ہزاروی مدظلہ العالی فرماتے ہیں کہ ہمارے  
پڑدادا حضرت علامہ مولانا محمد عوث صاحب علیہ الرحمۃ جیسا کہ والد صاحب علیہ الرحمۃ  
نے فرمایا تھا لکھنؤ میں ایک عالم کے پاس پڑھتے تھے وہ عالم صاحب کشف بزرگ تھے  
ان کو ایک دستخط میں تکلیف ہو گئی اور حضرت مولانا محمد عوث صاحب نے چھ ماہ  
تک ان کی ایسی خدمت کی کہ ان کا پاخانہ بھی خود اٹھا کر باہر لے جایا کرتے تھے۔ جب  
ان کو آرام ہوا۔ تو انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے فرمایا کہ ادھر چلے جاؤ۔ ان کے  
اشارے کے مطابق آپ چل نکلے۔ تو جس طرف ان کے استاد صاحب کا اشارہ تھا اس  
طرف آگے ریاست بھوپال واقع تھی۔ جب آپ ریاست بھوپال میں داخل ہوئے  
تو اس وقت بھوپال کی حاکمہ ایک عورت تھی جو ملکہ بھوپال کہلاتی تھی۔ ریاست میں  
اسلامی حکومت قائم تھی اور احکام شرعی بتانے کے لئے علماء مقرر ہوتے تھے۔ اتفاق  
سے ان دنوں قاضی القضاة کے عہدہ کے لئے ریاست کے علماء میں اختلاف تھا۔ آخر  
ملکہ بھوپال نے ارباب حکومت سے مشورہ کر کے یہ اعلان کر دیا تھا کہ کل باہر سے  
جو عالم میری ریاست میں داخل ہو اس کو قاضی القضاة بنا دیا جائے گا۔ دوسرے  
روز حضرت علامہ مولانا محمد عوث صاحب علیہ الرحمۃ ریاست میں داخل ہوئے تو ملکہ  
کے اعلان کے مطابق آپ کو قاضی القضاة (وزیر اعظم) بنا دیا گیا۔  
حضرت کے ریاست میں پہنچنے کی دوسری روایت جو کہ علامہ مفتی سیف الرحمن  
صاحب ہزاروی کا بیان فرماتے ہیں۔ اس کی تفصیل یوں ہے۔ کہ حضرت علامہ مولانا

محمد عوث صاحب علیہ الرحمۃ مقوڑی مدت میں درس نظامی پر سرسری عبور حاصل کر کے گھر واپس آ گئے۔ موضع کھلابٹ میں ایک ممتاز بزرگ اخوند صاحب کی اولاد میں سے تھے۔ جو صاحب کشف ہونے کے علاوہ علم جفر میں مہارت تامہ رکھتے تھے اور حضرت مولانا محمد عوث صاحب کے والد حضرت اعظم دین صاحب کے خصوصی دوست تھے۔ ان کو جب مولانا محمد عوث صاحب کے فارغ ہونے کا علم ہوا تو بڑے خوش ہوئے۔ حسن اتفاق سے ایک جنازہ کے بعد دونوں کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے حضرت مولانا محمد عوث صاحب سے علوم عقلیہ کے بارے میں چند سوالات کئے تو آپ جواب نہ دے سکے۔ وجہ یہ کہ حضرت نے اس طرف توجہ ہی نہ کی تھی۔ حضرت محمد عوث صاحب کے جواب نہ دینے پر ان کو سخت صدمہ ہوا۔ اور حضرت اعظم دین صاحب سے فرمانے لگے کہ میں نے سمجھا تھا کہ آپ کا صاحبزادہ پڑھ کر آیا ہے مگر یہ تو ابھی تشنہ تکمیل ہے۔ میرے خیال میں اس کو دوبارہ پڑھنا چاہیے کہ یہ کیا کرتا رہا۔ جب حضرت محمد عوث صاحب امتحان دینے میں ناکام ہوئے تو دل میں غیرت پیدا ہوئی پھر وہیں سے گھر لوٹنے کی بجائے ہندوستان چلے گئے۔ حسن اتفاق سے ایک مقتدر عالم کے پاس پہنچے کہ جو درس و تدریس میں بڑے مشہور اور ممتاز شخصیت رکھتے تھے۔ اور صاحب کشف و کرامت بھی تھے۔ یہ بزرگ اویسیہ طریقہ رکھتے تھے ان کے پاس تقریباً سو طالب علم تھے۔ اتفاق سے یہ مرض اسپتال میں مبتلا ہو گئے۔ طالب علموں نے دو چار دن تک استاذ کی صحت کا انتظار کیا۔ جب دن بدن مرض بڑھتا گیا تو طالب علم مایوس ہو کر نیکے بعد دیگرے چلے گئے۔ حتیٰ کہ حضرت محمد عوث صاحب رہ گئے۔ باقی کئی طالب علم وہاں نہ رہے۔ آپ نے وہاں میں خیال کیا اگر میں یہی پہلا گیا تو حضرت استاذ صاحب کا کیا ہو گا۔ اور ان کو کون سنبھالے گا۔ ان کو اکیلا مرض میں چھوڑ دینا بڑی بے وفائی ہے پڑھنے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آدمی ادائیگی حقوق میں کوتاہی نہ کرے۔ اس خیال نے حضرت موصوف کو خدمت استاذ پر مجبور کیا وہ پورا ایک سال بیمار رہے اور وہاں شاگرد نے ان کی خدمت میں کوئی کمی نہ سمجھ رکھی۔

بلکہ حق خدمت کو پورے طور پر بجا لائے۔ اور اپنے استاذ کو ذرا تکلیف نہ ہونے دی۔  
 سال گزرنے کے بعد وہ ٹھیک ہو گئے۔ تندرست ہونے کے بعد فرمایا بیٹا میں نے تیرے  
 اندر جو ہر وہ فاداری پایا ہے اب یہ فکر نہ کرنا کہ میرا سبق ناطہ ہو گیا ہے۔ سامتی کہیں  
 کے کہیں چلے گئے ہوں گے اللہ تعالیٰ تجھ کو فوقیت دے گا۔ چنانچہ مشفق استاذ نے  
 پڑھائی شروع کرادی۔ پڑھانے کا طریقہ یہ تھا۔ کہ ہر روز فرماتے کہ فلاں کتاب لے  
 آؤ۔ اس کے لئے فلاں فلاں کتاب کا آدہ ہے۔ اسے بھی دیکھو۔ بس ہر روز بہت سی  
 کتابیں مل جاتی تیں۔ جس کتاب کے بارے فرماتے وہ حضرت پر منکشف ہو جاتی اور سینہ  
 میں بے شمار علوم مخفیہ موزن ہو جاتے۔ الغرض چند مہینوں میں تمام علوم پر عبور حاصل  
 ہو گیا۔ بلکہ جملہ علوم عقلیہ و نقلیہ کے شیخ کامل ہو گئے۔ علوم ظاہری کے بعد علوم باطن  
 کی طرف توجہ ہوئے۔ باطنی علوم میں بھی مشفق استاذ نے دستگیری فرمائی۔ اور ان سے  
 طریقہ اویسیہ میں بیعت ہو گئے۔ حضرت استاد صاحب نے خرقة خلافت عطا فرمایا۔ جب  
 علوم ظاہری و باطنی سے فارغ ہوئے تو وطن لوٹنے کی خواہش پیدا ہوئی تو محترم استاذ  
 صاحب سے اجازت مانگی۔ فرمایا وطن نہ جاؤ بلکہ تم ریاست مہوپال چلے جاؤ۔ خیال آیا کہ  
 ریاست مہوپال میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ اور نہ ہی میرا دماغ کوئی واقف ہے تو کیسے  
 گذر ہوگی۔ مگر پاس ادب کی خاطر کچھ نہ کہا اور حضرت استاذ صاحب کے فرمان پر لبیک  
 کہتے ہوئے ریاست مہوپال کا رخ کیا۔ رات کو ریاست میں داخل ہوئے تو والی ریاست  
 کی سرائے میں ٹھہرے۔ جب صبح ہوئی تو والی ریاست کا ملازم سرائے میں آیا اور  
 باداد بلند کہنے لگا کہ یہاں کوئی ہزارہ کا رہنے والا مولوی صاحب ہے۔ حضرت نے  
 سوچا مجھ سے اس کی کیا عرض۔ سیکڑوں اور سوں گے اس وجہ سے آپ نہ بولے آخر  
 وہ پکارتے پکارتے حضرت کے پاس آگیا۔ پاس آکر مجھ اس نے دو تین آوازیں دیں  
 پھر حضرت بولے میں ہزارہ کا رہنے والا ہوں۔ وہ کہنے لگا کہ خدا کے بندے میں اتنی  
 دیر سے پکار رہا ہوں تم کیوں خاموش رہے۔ جلدی کرو تمہیں والی ریاست نے یاد  
 کیا ہے۔ میرے ساتھ چلو۔ پھر حضرت کو وہ ساتھ لے گیا۔ اور نکلنے کے حکم کے مطابق

حضرت کو قاضی القضاة (وزیر اعظم) بنا دیا گیا۔

ریاست میں یہ عہدہ وزیر اعظم کے منصب کے برابر تھا اور ریاست کے وزیر اعظم

کو قاضی القضاة کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔

بہر حال حضرت مولانا محمد غوث صاحب علیہ الرحمۃ کو وزارتِ عظمیٰ کا عہدہ سونپ

دیا گیا۔ ریاست کے مقامی علماء نے جب یہ دیکھا کہ ایک بیرونی شخص کو اتنے بڑے عہدے

کا منصب دیا گیا ہے تو وہ بگڑ بیٹھے۔ بالآخر آپس میں مشورہ کرنے کے بعد یہ طے پایا کہ ہم

اسے نذر دوسے مناظرہ کریں گے، اگر یہ جیت گیا تو پھر اس کو اس عہدے پر قائم رکھا

جائے اور اگر ہم جیت گئے تو پھر اس کو عہدہٴ قضاة سے معزول کیا جائے اور ہمیں

کسی کو یہ عہدہ دیا جائے۔ بالآخر ریاست کے سوعالموں نے مینگ کی اور ملکہ نے حضرت

کو بلا کر پوچھا کہ آپ مناظرہ کے لئے تیار ہیں تو آپ نے فرمایا کہ تیار ہوں۔ چنانچہ مناظرہ

کی تاریخ مقرر ہو گئی۔ ریاست کے علماء نے اپنی مینگ میں یہ طے کیا کہ جو عالم ہمیں علم میں

ماہر ہو وہ اس علم کا سوال کرے۔ آخر مقررہ تاریخ پر لوگوں کے مجمع میں ان مولویوں

نے حضرت سے کئی سوالات کئے۔ آپ فرماتے تھے کہ پہلے تو میں گھبرا سا گیا تھا۔

کیونکہ ایک تو یہ معلوم نہ تھا کہ وہ کون سا سوال کریں گے اور کس علم کا سوال کریں

گے۔ اور دوسرا یہ کہ اس وقت میرے پاس کوئی کتاب نہ تھی۔ بلکہ یادداشت سے جواب

دینے تھے۔ تو وہ لوگ جب کوئی سوال کرتے تو خدا کے فضل و کرم سے اور اس بزرگ

(اپنے استاد و پیر) کی دعا و برکت سے میرے سامنے ایک تختہ (بورڈ) آجاتا تھا۔ جس

پر جلی قلم سے اس سوال کا جواب لکھا ہوتا تھا۔ وہ تختہ صرف مجھے نظر آتا تھا اور میں

اس جواب کو پڑھ کر ان کو سنا دیتا تھا۔ اور جب ان کے تمام سوالات ختم ہو گئے

اور ہر ایک کا شافی و کافی جواب انہیں مل گیا تو ان کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی۔ سب

کے سب قدموں پر گر گئے اور کہنے لگے کہ تم مولوی نہیں ہو صاحب کشف و کرامت

دلی افسوس۔ کہ اتنے سوالات کے جوابات میں کوہم کافی چھان بین اور غور و خوض

کے بعد تیار کر کے لائے تھے۔ یادداشت سے دینا کسی عالم کا کام نہیں ہے۔ تو

اس طرح حضرت علامہ مولانا محمد غوث صاحب علیہ الرحمۃ کا ریاست میں سکے بیٹھ گیا پھر وہ علامہ آپ کا بے حد احترام کرتے تھے۔ جب آپ ریاست میں اس عہدہ پر فائز تھے۔ تو بیر دن ریاست سے نامور علماء آپ کو خطوط بھیجتے تھے جو عربی اور فارسی میں ہوتے تھے۔ جن میں بڑے بڑے القاب سے آپ کو یاد کیا جاتا تھا۔ وہ خطوط اب تک حضرت علامہ مفتی سیف الرحمن صاحب ہزاروی کے پاس موجود ہیں ان خطوط میں اس وقت کے نامور عالم مولانا تاج علی صاحب جنہوں نے علم منطق کی مشہور اور عظیم کتاب قاضی مبارک پر حاشیہ لکھا ہے۔ اور اس کے علاوہ اور بہت سی کتابوں کے مصنف ہیں۔ ان کے خطوط بھی ہیں۔ اور یوں ہی وہی کے مشہور عالم مفتی صدر الدین صاحب صاحب جیسے علماء کے خطوط بھی ہوتے تھے۔ عرصہ تک آپ کا یہ سلسلہ جاری رہا اور بعد میں کچھ سے آپ کا سوتیل بھائی محمد کلیں ڈاکٹر سید محمود کا دادا آپ کے پاس پہنچا اور کہنے لگا کہ میں فریادی بن کر آیا ہوں کہ دریائے سندھ کے پار سے اتھان زئی سے پٹھان آگئے ہیں۔ جنہوں نے ہماری زمین چھین لی ہے اور سجادوں میں رہنا مشکل ہو گیا ہے۔ اس لئے جب تک آپ نہیں جاتے ہم وہاں نہیں رہ سکتے۔ اس نے بہت ہمت سماجت کی تو آپ کو اس کی حالت پر ترس آ گیا اور آپ نے واپس وطن جانے کی تیاری کر لی۔ اس زمانے میں ریل گاڑی یا موٹریں تو نہیں ہوتی تھیں صرف بیل گاڑیاں چلتی تھیں آپ نے ان بیل گاڑیوں پر جنہیں کسبھی کہتے ہیں اپنا سامان لاد لیا۔ جب آپ صوبہ گجرات پہنچے اور جو اب ہندوستان میں ہے تو آپ ان ہتھیاروں کو جو آپ کے پاس تھے تیز کرانے کے لئے گجرات ہندوستان تشریف لے گئے اور وہ سامان سے لدی ہوئی گاڑیاں سڑک پر کھڑی کر دی گئیں۔ اور آپ نے محمد کلیں کو ہدایت کی کہ جب تک میں واپس نہ آؤں یہاں ہی ٹھہرنا۔ لہذا جب آپ چلے گئے تو محمد کلیں نے گاڑی بانوں سے مل کر گاڑیاں چلا دیں۔ جب آپ ہتھیار تیز کر کے واپس آئے اور بھائی کو بوجہ سامان نہ پایا تو آپ اس کی خیانت کو تاڑ گئے۔ اور فوری طور پر کراہہ دار گاڑی پر سوار ہوئے اور بھاگنے والوں کا تعاقب کیا اور گاڑی اتنی تیز چلی کہ ان کو پا لیا۔ جب ان کو پکڑنے میں

میں تپ ہو گئے تو حضرت نے اپنے بھائی محمد کلین کو مخاطب کر کے فرمایا کہ سر قلم کرانے کے لئے تیار  
 رہنا اور گاڑھی بانوں کو بھی فرمایا کہ تمہیں بھی نہ چھوڑوں گا۔ آخر وہ سب آپ کے قدموں پر  
 سڑے اور معافی مانگنے لگے۔ جب بھائی اور گاڑھی بانوں کی آہ وزاری حد سے بڑھ گئی تو  
 حضرت نے انہیں معاف کر دیا اور ان کے ساتھ ہی وطن آئے اور اپنے بھائی کو اپنے آپ  
 سے علیحدہ کر دیا۔

حضرت صاحب علیہ الرحمۃ ریاست بھوپال سے چند ہتھیار ساتھ لائے جو کہ یہ تھے  
 تلوار ۱۲ چھرا ۱۳ پشکوز۔ تلوار اب تک علامہ مفتی سیف الرحمن صاحب کے پاس موجود  
 ہے۔ اس کے دستے پر سونے کا پانی چڑھا ہوا ہے۔ دوسرے ہتھیار ضائع ہو گئے ہیں۔ آپ  
 تیرکمان بھی اپنے ساتھ لائے تھے اور اب وہ بھی ضائع ہو گئے ہیں۔

حضرت علامہ محمد عنوث صاحب علیہ الرحمۃ جب اپنے وطن واپس آئے سات کڑے  
 (علاقہ ہزارہ میں ایک پیمانہ ہے) جسے پنجابی میں ٹوپہ کہتے ہیں) لعل سونے کی اشرفیاں اور  
 پونڈ لائے تھے جس کی وجہ سے حضرت کو مال و دولت کی کوئی ضرورت نہ تھی اور نہ کسی کی  
 چیز کی طرف دھیان کرتے تھے۔ یہ بات حضرت قبلہ قاضی غلام محمود صاحب نے اپنی نانی  
 مرحومہ سے سنی ہے۔ ان کا بیان ہے کہ جب مجھے بیاہ کر لایا گیا تو میں نے دیکھا کہ مٹی  
 کی بڑی بڑی دیگیں ہیں جن میں چاندی کے روپے ڈال کر ان کو بھردیا جاتا اور مٹھیوں  
 سے روپے نکالے جاتے تھے اور جب وہ ختم ہونے کے قریب ہوتے تو اور روپے ڈال  
 دیئے جاتے اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہتا۔ حضرت صرف چھوٹا گوشت کھاتے، موٹا گوشت  
 استعمال نہیں کرتے تھے اور کسی بے دین آدمی کے ہاتھ کا ذبیحہ بھی نہیں کھاتے تھے اس  
 واسطے حضرت نے ایک دیندار قصاب اپنے لئے الگ مقرر کر رکھا تھا جو ان کے لئے ہر  
 دو ہرے تیسرے روز بکرا ذبح کرتا اور آپ اس کا گوشت کھاتے۔ ہمیشہ آپ کے لئے الگ ٹاشی  
 پکائی جاتی۔ آپ اکثر پکھا کھایا کرتے تھے۔ جب آپ اپنے وطن میں اپنے گھر تھے تو ریاست  
 بھوپال سے ایک شخص آپ کو ملنے آیا تو اس نے دیکھا کہ آپ سقڑے (ایک قسم کا خورد  
 کھاں ہے جس کو ہمارے ملک میں مسجھون کے اندر بچھاتے ہیں) پر بیٹھے ہوئے ہیں۔



دیکھنے والے کی آنکھوں میں آنسو آگئے اور کہنے لگا کہ ایک وہ وقت تھا جب آپ وزارتِ عظمیٰ کی کرسی پر بیٹھے ہوتے تھے اور اب زمین پر بیٹھے ہو۔ آپ نے فرمایا ہم درویشوں کے لئے یہی اچھا ہے۔ تین سال تک آپ مدینہ منورہ میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی سوائس طرف حدیث کا درس دیتے رہے ہیں۔ بعض کتابیں مدینہ پاک کے قیام کے دوران آپ کے پاس تھیں۔ جو اب بھی علامہ قاضی غلام محمود صاحب کے پاس موجود ہیں۔ جن کو تبرک سمجھا جاتا ہے۔ کیونکہ وہ مدینہ منورہ رہ چکی ہیں۔ جب آپ بھوپال سے تشریف لائے تھے تو آپ ایک صندوق کتابوں سے بھر کر ساتھ لائے تھے اور اس پر سبز بانات (نہایت ہی اعلیٰ قسم کا ایک کپڑا ہوتا ہے پتڑھا بڑا تھا۔ اب صندوق آپ کی یادگار باقی ہے۔ البتہ بانات کا کپڑا نہیں ہے۔ نیچے سے میٹھیں نکل آئی ہیں۔ اس صندوق میں آپ دینی کتابیں لائے تھے ان کتابوں میں ایک کتاب احیاء العلوم امام غزالی علیہ الرحمۃ کی تصنیف ہے۔ جو قلمی ہے اور اس کے سرورق پر آپ کے خط سے لکھا ہے۔ اَشْتَرَيْتُ هَذَا الْكِتَابَ بِنِصْفِ رِطْلٍ النَّهْبِ حَسْبِ كَاتِبٍ یہ ہے کہ میں نے اس کتاب کو پاؤ بھر سونے سے خریدا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ کتابیں اس وقت بہت مہنگی تھیں۔ کیونکہ وہی احیاء العلوم مطبوعہ آج چالیس روپے میں مل جاتی ہے۔ آپ کی ان کتابوں میں نسرل الابرار شرح کتاب الاذکار تصنیف نواب عدیق حسن خان بھوپالی مطبوعہ استنبول ۱۳۰۱ھ کی چھپی ہوئی اور فتاویٰ قاضی خان چار جلدوں میں۔ اور جامع صغیر قلمی علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی جو حدیث کی چھ کتابوں کا مجموعہ ہے۔ یعنی صحاح ستہ کی تمام حدیثیں مختصر طور پر اس میں جمع کر دی گئی ہیں۔ اور اس قسم کی بہت سی کتابیں ہیں۔ اور عینی شرح بخاری کے کچھ حصے قلمی موجود ہیں۔ جن کے اوراق اور سیاہی بہت عمدہ ہے۔ جو آئندہ بھی کئی سالوں تک قائم رہ سکتے ہیں۔ اس کی دو بڑی ضخیم جلدیں موجود ہیں۔ دوسری جلد پر عالمگیر اور گلزیب علیہ الرحمۃ کی اپنی ہرنگی ہے۔ حضرت علامہ قاضی عبدالسبحان صاحب فرمایا کرتے تھے کہ یہ کتاب عالمگیر علیہ الرحمۃ نے خود اپنے قلم سے لکھی ہے۔ ویسے اورنگ زیب عالمگیر

علیہ الرحمۃ بہترین کاتب تھے۔ قرآن مجید اپنے ہاتھ سے لکھ کر اس کا ہدیہ لیا کرتے تھے۔ اور پھر اس ہدیہ کو تین حصوں میں تقسیم کر دیتے تھے۔ ایک حصہ غزباء و مساکین کے لئے دوسرا حصہ گھردالوں کے لئے اور تیسرا حصہ اپنے لئے رکھ لیا کرتے تھے۔

کتاب مذکور کا خط اور کاغذ اب بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ یہ کسی خاص شخصیت کا کارنامہ ہے۔ آپ نے دہلی میں نذیر حسین دہلوی عزیز مقلد کے ساتھ جو غیر مقلدین میں اس زمانہ کے مشہور اور بہت بڑے عالم تھے (مناظرہ بھی کیا اور جس میں آپ کامیاب رہے تھے۔ اور جب آپ اپنے وطن تشریف رکھتے تھے تو موضع صوابی میرہ میں ایک مجذوب فقیر تھے جن کو پہا یا بابا ————— کے نام سے لوگ یاد کرتے تھے

وہ ایک صاحب باطن فقیر تھے۔ کسی شخص کو نام جمیر شریف سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر انوار پر حاضر ہوا تھا۔ خواجہ صاحب علیہ الرحمۃ نے خواب میں فرمایا تھا۔ کہ پہا یا بابا علاقہ خراسان کا متصرف ہے (یعنی ہزارہ، پشاور اور افغانستان کے علاقے خراسان میں ہی واقع ہیں) تو وہ فقیر حضرت مولانا محمد عنوث صاحب علیہ الرحمۃ کے پاس مسجد میں آیا کرتے تھے۔ اور حضرت کا معمول تھا کہ فجر کی نماز پڑھ کر اشراق بلکہ چاشت کی نماز تک مسجد میں ٹھہرا کرتے تھے۔

علامہ قاضی غلام محمود صاحب ہزاروی فرماتے ہیں کہ مسجد کے دروازے میں کھڑے ہو کر وہ پہا یا بابا صاحب کہتے تھے۔ کہ کرے مولوی جو کرنا ہے مھوڑے ہی دن ہیں۔ حضرت علامہ مفتی سیف الرحمن صاحب ہزاروی یوں فرماتے ہیں کہ وہ مجذوب آپ کو بلنے آیا کرتا تھا۔ مگر آپ اس کی آمد سے کچھ پہلے مسجد کے دروازے بند کر دیا کرتے تھے۔ وجہ یہ کہ مجذوب پابند شریعت نہ تھے۔ اور آپ ایسے شخص سے ملنا پسند نہ فرماتے تھے۔ وہ مجذوب مسجد کے چاروں طرف پھر پھر اکروا پس ہو جاتے۔ اور جاتے وقت کہتے مولوی کب تک ایسا کرے گا۔ ہو سکتا ہے کہ اس سے اس کی مراد آپ کی وفات ہو

حضرت مولانا محمد عنوث صاحب علیہ الرحمۃ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درباری و حضور ہی تھے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں آپ کو روحانی طور پر حاضری

اور بار یا بی نصیب تھی۔

آپ کا قد اور شخصیت بارعب تھی۔ از سر تا پا عملی طور پر شریعت کا مجسمہ تھے۔ اور مستحب تک بھی ترک نہ ہونے دیتے تھے۔ اور عالم اتنے بڑے کہ علماء کرام آپ کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتے تھے۔

## چانداد

رہٹ کے ارد گرد زمین کے چار ٹکڑے ہیں۔ جو کل چودہ کنال بتا جاتی ہے۔ جن میں دو کنال حضرت مولانا محمد خلیل صاحب علیہ الرحمۃ جن سے گولال (یعنی مولیشیوں کے لئے مکان) بنا ہوا ہے۔ یہ موجودہ مکان حضرت علامہ قاضی محمد عبدالسبحان صاحب علیہ الرحمۃ نے بنایا تھا۔ حضرت علامہ قاضی غلام محمود صاحب فرماتے ہیں کہ اس مکان کا بنانا مجھے یاد ہے۔ کہ بھلاہٹ کے مستری ابند دین صاحب نے بنایا تھا۔ ایک دن میں اس مکان کی چار دیواری تیار ہو گئی تھی۔ تیس آدمی کام کرنے والے تھے۔ مستری ابند دین صاحب نے کہا تھا کہ بتیس سیر آٹا گندم کا اور آٹھ سیر گھی کام کرنے والوں کے لئے دائیں ہاتھ سے لکال دو۔ اور درخت نارنج دکھٹی والا اور دوسرا زمین کا ٹکڑا حضرت مولانا محمد مظہر جمیل صاحب علیہ الرحمۃ کے نام ہے۔ اور رہٹ سے نیچے دو چھوٹے ٹکڑے (لوگرے) یا رہٹ والی جگہ یا برغندے جو رہٹ کے ساتھ ہی ہیں جو کہ پانچ کنال بتائے جاتے ہیں۔ یہ غالباً سوائے آخری برغندے کے جو شیر بہادر مرحوم اور حیدر خان کی گولالوں کے ساتھ ہے۔ حضرت مولانا محمد مظہر جمیل صاحب علیہ الرحمۃ کے وقت کے ہیں۔ اور ان کے اپنے خریدے ہوئے ہیں۔ یا حضرت مولانا محمد عنوث علیہ الرحمۃ کے وقت کے ہیں۔ وہ چھوٹا برغندہ موضع پھولدار کے مظفر خان مرحوم کے والد مرحوم نے چارے حضرت مولانا محمد مظہر جمیل علیہ الرحمۃ یا حضرت علامہ قاضی محمد عبدالسبحان صاحب علیہ الرحمۃ کو بیہ کر کے (بخش کر) دیا تھا۔ حضرت علامہ محمد عبدالسبحان صاحب علیہ الرحمۃ بیان فرماتے تھے۔ کہ ایک دفعہ میرے سامنے مظفر خان صاحب نے اس برغندے کا ذکر چھیرا تھا۔ تو حضرت موصوف علیہ الرحمۃ نے یہ جواب دیا تھا کہ تمہارے والد نے یہ ہمیں بیہ کر کے دے دیا تھا۔ اور حضرت علامہ قاضی غلام محمود صاحب فرماتے ہیں کہ میں خود اس بات کے وقت موجود تھا مظفر خان صاحب حضرت

کے جواب پر خاموش ہو گئے۔ حضرت علامہ مولانا محمد عنوث علیہ الرحمۃ کی اپنی مملوکہ اور بھی زمین تھی۔ اس میں تقریباً تین چار کنال حضرت قاضی صاحب کے رہٹ والے برغنڈوں کے ساتھ ہی ہے۔ یہ قطعہ زمین آپ نے اپنی لڑکی کو شادی کے وقت جن کی شادی موضع جوڑا پٹنڈا میں ہوئی تھی دیا تھا جو حضرت علامہ قاضی محمد عبدالسبحان صاحب علیہ الرحمۃ کی بھوکھی صاحبہ تھیں۔ بعد میں ان کے لڑکے قاضی محمد حسین نے اس کو خود فروخت کر دیا تھا۔ اور ایک وہ زمین ہے جو رہٹ سے نیچے اپنے موجودہ چھوٹے برغنڈوں کے بالکل متصل کچھ نیچے کی طرف ہے۔ جو اب حبیب الرحمان خان کے پاس ہے۔ وہ زمین آپ نے اپنی موضع جوڑا پٹنڈا والی لڑکی کو شادی کے وقت دے دی تھی۔

حضرت علامہ محمد عنوث صاحب علیہ الرحمۃ کی شاہانہ طبیعت تھی۔ جوڑا پٹنڈا میں تقریباً تین سو کنال زمین تھی۔ جو آپ نے اپنے جوڑا پٹنڈا والے بھائی کے نام منتقل کرادی تھی۔ اس وقت مرزا ڈوٹی جو بدوبست آرمیڈا کی وقت متعلقہ آفسر تھے نے کہا تھا کہ زمین آپ اپنے نام رہنے دیں سرکاری کاغذات میں نام آپ کا ہی رہے۔ اور اگر آپ اپنے رشتہ داروں کو دینا چاہتے ہیں۔ تو اس زمین سے نفع وہ حاصل کرتے رہیں۔ مگر آپ نے فرمایا کہ معلوم نہیں میری اولاد کیسی ہو۔ پھر وہ اگر میرے بھائی سے بھین لیں تو تکلیف ہوگی۔ چالیس یا ستر کنال زمین انہوں نے اپنے نام رہنے دی جو موضع جوڑا پٹنڈا میں تھی۔ اور بعد میں حضرت علامہ قاضی محمد عبدالسبحان صاحب علیہ الرحمۃ نے اپنی وفات سے دو تین سال پہلے مولوی میاں یحییٰ صاحب کو مفت دے دی تھی۔ حضرت علامہ مولانا محمد عنوث صاحب علیہ الرحمۃ کا ایک سکا بھائی تھا۔ اور ڈاکٹر سید محمود کے دادا محمد کلیل کا سوتیلا بھائی تھا۔ ان کی جائداد اپنے بچے نور مصطفیٰ کی والدہ بیوہ بیگم جان کے نام تھی۔ اس کے بارے میں بیگم جان کی وفات کے بعد ڈاکٹر سید محمود کے ساتھ حضرت علامہ قاضی محمد سبحان صاحب علیہ الرحمۃ کے بھگڑے اور مقدمے ہوئے ہیں ہمیشہ محمد والے حضرت مولانا اسکندر علی صاحب مرحوم نے شرعی فیصلہ قبلہ قاضی صاحب علیہ الرحمۃ کے حق میں دیا تھا۔ شریعت کے فیصلے ڈاکٹر سید محمود نے انکار کر دیا۔ اور مقدمہ چلتا رہا۔ آخری فیصلہ ریونی کمشنر پشاور کی عدالت

سے حضرت علامہ قاضی صاحب علیہ الرحمۃ کے حق میں ہوا تھا۔ مانی بیگم جان کی موجود  
چودہ کنال زمین ہے۔ جو اب بھی بیع ملکیت ہماری ہے۔ اور چار کنال زمین دو ہزار روپے  
میں عبد الرحیم کے لڑکوں کے پاس ہے۔ اور دس کنال صحنی اٹل کے لڑکے عبد الجبار کے  
پاس رہن ہے۔ تقریباً پانچ چھ کنال زمین کا ایک مخصوص ٹکڑا راجورہٹ والی زمین سے نیک  
کالا خان ولد شاہزادہ خان کے باغ کے اوپر ہے۔ یہ حضرت مولانا محمد خلیل صاحب  
علیہ الرحمۃ نے حج کو جاتے وقت عبدالرحمن برہمی کو پانچ سو روپے کے عوض رہن دیا تھا  
یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ یہ کس وقت سے چلا آ رہا ہے۔ غالباً ان کا اپنا زر خرید تھا۔ بعد میں  
حضرت علامہ قاضی محمد عبدالسبحان صاحب علیہ الرحمۃ نے پندرہ سو روپے کے عوض موضع  
ناڑا کے ایک شخص کے پاس رہن رکھ دیا تھا۔ اب وہ اسی کے پاس ہے۔ حق بیع حضرت  
قاضی غلام محمود صاحب مدظلہ العالی اور حضرت مفتی سعید الرحمن صاحب مدظلہ العالی  
سورہ پیر دے کر اسے آزاد بھی کر سکتے ہیں۔ (غلام سرور)

## مکانات

مسجد کے پاس شیر احمد خان کے پڑوس میں جو مکان ہے۔ یہ حضرت علامہ محمد مظہر جمیل  
صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خود بنوایا تھا۔ اس کی لکڑی دیار کی ہے۔ یہ لکڑی آپ مالنہرہ کے  
قریب کافان سے لائے تھے۔ اب یہ مکان حضرت قاضی غلام محمود صاحب مدظلہ العالی کے حصہ میں ہے  
اس کے ساتھ دوسرا مکان حضرت علامہ قاضی محمد عبدالسبحان صاحب علیہ الرحمۃ کے موضع  
جوڑا پنڈ والی پھوپھی صاحبہ مرحومہ کا تھا۔ جو حضرت علامہ قاضی محمد عبدالسبحان صاحب علیہ الرحمۃ  
کو ملا تھا وہ بھی حضرت علامہ قاضی غلام محمود صاحب کے حصہ میں آیا ہے اس مکان کا  
دروازہ پڑوسی سیدوں کی طرف ہے۔ اس کی گلی بھی تھی کہیں علی حیدر شاہ صاحب کی منت  
سماجت پر حضرت مرحوم نے وہ گلی ان کو دے دی تھی جو اس نے اپنے مکان میں شامل کر لی ہے  
اور اس طرح گلی کا دروازہ بند ہو گیا اب اس طرف سے راستہ نہیں رہا اور اس طرف بڑے مکان  
کی جانب دروازہ لگا دیا گیا ہے۔ جہاں کہ پہلے ایک کتڑی لگی ہوئی تھی۔ دوسرا مکان جو اب

حضرت علامہ مفتی سیف الرحمن صاحب کے پاس ہے یہ پہلے کچا تھا۔ اور اب پکا بنا دیا گیا ہے۔ اس کی تعمیر کا کام مستری افتدین نے کیا ہے۔ اُس وقت حضرت علامہ قاضی محمد عبدالسبحان صاحب گجرات اور پھر شہر قیوہ شریف میں تھے۔ یہ کام حضرت قبلہ قاضی غلام محمود صاحب مدظلہ العالی نے کروایا تھا۔ اور باہر کی بیٹھک کا کام حضرت علامہ قاضی محمد عبدالسبحان صاحب علیہ الرحمۃ نے خود کروایا تھا اور یہ مستری فضل داد موضع چنہ پنڈوالے نے ٹھیکہ پر کیا تھا۔ پہلے اس بیٹھک کی جگہ پر دو کچی کوٹھڑیاں تھیں۔ ایک کوٹھڑی میں کتابیں رکھتے اور دوسری میں بھینس باندھا کرتے تھے۔ یہ مکان اور بیٹھک حضرت علامہ مولانا محمد عنوث صاحب علیہ الرحمۃ کے وقت کا ہے۔ دادی بیگم جان والا مکان گر گیا تھا اس کے دو حصے ہیں۔ مکان اور صحن۔ مکان والی جگہ رئیس المناظرین شیخ الاسلام فخر زماں علامہ دوران حضرت علامہ قاضی محمد عبدالسبحان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مزار شریف ہے اور صحن والا حصہ حضرت مفتی سیف الرحمن صاحب نے اپنی چھوٹی ہمشیرہ کی شادی کے وقت بوجہ ضرورت محمد زمان خان مرحوم کے ہاتھ مبلغ دو صد روپیہ میں فروخت کر دیا تھا اور حاصل کردہ رقم شادی کی ضروریات پر صرف کی تھی یہ کام مفتی صاحب نے حضرت والدہ صاحبہ کی مرضی سے کیا تھا۔

## شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد عنوث صاحب کے مناظرے

قاضی میر عالم قاصیاں والے جو اہل حدیث تھے اور ان کے رفقاء علماء غیر مقلدین آپ کے سامنے مقابلے سے عاجز ہو گئے تو یہ لوگ مولانا غلام یحییٰ صاحب موضع ڈونہ کچیلی والوں کے پاس جا کر روئے اور ان سے التجا کی کہ آپ خدا کے واسطے ہمارے کہنے پر شیرسرحد مولانا محمد عنوث صاحب سے مناظرہ کر کے ان کو شکست دیں۔ وہ لوگ اس طرح اپنا پے در پے شکستوں کا بدلہ لینا اور اپنے دل کی آگ بجھانا چاہتے تھے۔ ان لوگوں نے خدا جانے کیا کیا باتیں کہہ کر حضرت مولانا غلام یحییٰ صاحب کو مناظرہ کرنے اور ہزارہ تشریف لے جانے پر آمادہ کر لیا۔ مہم ہو کہ حضرت مولانا غلام یحییٰ صاحب بہت بڑے عالم ادب بالخصوص علم منطق اور ریاضی میں بہت ہی ماہر تھے۔ ڈونہ کچیلی منظر آباد

د آزاد کشمیر کے قریب ایک چھوٹا سا گاؤں ہے۔ حضرت مولانا غلام یحییٰ صاحب نے وہاں بہت بڑا درس قائم کر رکھا تھا۔ خدا کی ہزار ہزار رحمتیں ہوں ان لوگوں پر جنہوں نے خشک روٹیاں کھا کر علوم و فیوض کے چشمے بہا دیئے۔ آپ کی درس گاہ دور تک مشہور تھی۔ اور دور دراز سے علوم عقلیہ کے شائقین کھچے چلے آتے تھے۔ حضرت مولانا غلام یحییٰ صاحب سنی المذہب اور حنفی المسلك تھے۔ مگر ان غیر مقلدین نے اس بزرگ کو ادھر ادھر کی باتیں کر کے مناظرہ کرنے پر تیار کر لیا۔ تو جب آپ اپنے گاؤں سے چلنے لگے۔ تو فرمایا شیر شکار کے لئے چل نکلا ہے۔ اب دیکھیں کس کی ہمت سوگی جو مقابلہ کے لئے آئے گا۔ اور جب آپ ہری پور ہزارہ پہنچے اور حضرت شیر سرحد مولانا محمد عوض صاحب محدث ہزاروی کو مناظرے کی دعوت پہنچی تو آپ بھی مناظرے کے لئے تیار ہو گئے۔ ویسے یہ دعوت مناظرہ بالکل اچانک تھی۔ لیکن شیر سرحد علیہ الرحمۃ واقعی خدا جل جلالہ و مصطفیٰ علیہ السلام کے شیر تھے۔ اور وہ اس قسم کی باتوں سے قطعاً گھبراتے نہ تھے۔

اس مناظرہ میں نظم و نسق کو برقرار رکھنے کی ذمہ داری بابا سکندر خان مرحوم ساکن درویش کی تھی۔ اور حضرت مولانا محمد عوض صاحب نے ہی یہ ذمہ داری بابا صاحب کو سونپی تھی جو انہوں نے قبول کر لی تھی۔ مناظرے کے لئے جگہ سکندر پور (جو اب گویا ہری پور شہر کا ایک محلہ ہی ہے) مقرر ہوئی۔ حضرت مولانا میاں عبدالحق صاحب غور غشتی صنوع کیمبلپور (جو ایک جید عالم اور پارسا معمر بزرگ ہیں اور اب زندہ موجود ہیں) کے دادا حضرت مولانا فیضی میاں صاحب۔ اور حضرت مولانا عبدالغفور صاحب ہزاروی وزیر آبادی کے دادا۔ جو بہت بڑے عالم اور بالخصوص علوم عقلیہ کے ماہر تھے۔ حضرت علامہ قاضی محمد عبدالسبحان صاحب علیہ الرحمۃ ان کے متعلق فرماتے تھے۔ کہ یہ بزرگ موصیٰ جنبہ پنڈ میں جوان کا آبائی گاؤں تھا۔ کھیتوں میں مویشی چراتے چراتے کھڑے کھڑے علم فلسفہ کی بہت مشکل اور اونچی کتابیں مثلاً صدر اور شمسی بازغہ کے اسباق طالب علموں کو پڑھا دیا کرتے تھے یہ دونوں بزرگ مناظرہ میں شیر سرحد علیہ الرحمۃ کے ساتھ۔ پا کرتے تھے۔ ویسے مناظرے اور مرکز کی کردار پر لحاظ سے اور میدان میں

زیر سرحد حضرت مولانا محمد عوث صاحب علیہ الرحمۃ محدث ہزاروی خود ادا کیا کرتے تھے۔ اور یہ دونوں بزرگ ان کے مددگار اور معاون ہوتے تھے۔

ہاں تو اس مناظرہ میں اصل مناظرہ شروع ہونے سے قبل حضرت مولانا فیضی صاحب علیہ الرحمۃ عوز غشی نے شیر کشمیر حضرت مولانا غلام یحییٰ صاحب علیہ الرحمۃ سے بحث پھیری اور حضرت مولانا جنبہ پنڈوالوں نے بھی ان سے بحث کی۔ مولانا صاحب جنبہ پنڈوالوں کی بحث کے دوران مسئلہ امرکان خاص اور مکان عام پر بحث چلی نکلی جس میں حضرت مولانا جنبہ پنڈوالوں کا ہی پلہ بھاری رہا۔ بعد میں اصل مناظرہ شروع ہوا جس میں شیر سرحد حضرت علامہ مولانا محمد عوث صاحب محدث ہزاروی علیہ الرحمۃ و نمایاں کامیابی حاصل ہوئی۔

اس مناظرہ میں حضرت مولانا غلام یحییٰ صاحب علیہ الرحمۃ کو ایسی شکست دلائی گئی کہ بعد میں آپ نے عمر بھر کسی سے مناظرہ کا رخ نہ کیا۔ اور واپس اپنے گاؤں جا کر فرمایا کہ مجھے کیا معلوم تھا کہ ایسے ذمی علم لوگ آج بھی موجود ہیں۔ ورنہ میں کبھی مناظرہ کے لئے نہ جاتا۔

۱۲ اس زمانہ کے غیر مقلدین جماعت اہلحدیث کے مانے ہوئے مشہور پیشوا نذیر حسین صاحب دہلوی (جو کہ مشہور عالم اور اپنے طور پر مانے ہوئے مناظر تھے۔ اور اب بھی جماعت اہلحدیث کے علاوہ دوسرے علماء ان سے متعارف ہیں) سے حضرت مولانا محمد عوث صاحب ہزاروی علیہ الرحمۃ کا احتقان اور غیر مقلدین کے مابین اختلافی مسائل پر دہلی شہر میں زبردست مناظرہ ہوا۔ جس میں حضرت محدث ہزاروی علیہ الرحمۃ کو واشگان کامیابی ہوئی اور نذیر حسین صاحب دہلوی کو شکست دلائی ہوئی۔

۱۳ حضرت مولانا محمد عوث علیہ الرحمۃ کے آبائی گاؤں موضع کھلابٹ کے رئیس خان میر زمان خان کے پاس علاقہ غیر سے ایک عالم آئے اور کہنے لگے کہ تم اپنے گاؤں کے عالم یعنی حضرت محدث ہزاروی کو بلاؤ میں ان سے مناظرہ کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ خان صاحب نے مولوی صاحب کے اصرار پر حضرت موصوف کو بلا یا۔ آپ اپنے منکسرانہ



اور متواضعانہ اخلاق کی بنا پر تشریف لے گئے اور پھر وہاں پہنچ کر خان صاحب سے پوچھا کہ مجھے کیوں بلایا گیا ہے۔ خان صاحب نے عرض کی کہ یہ مولوی صاحب نواز دہقان ہیں اور آپ سے مناظرہ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے جلال میں آکر مولوی صاحب سے فرمایا۔ مولوی صاحب گرمیوں اور سردیوں کے اندر استنجا کرنے کے طریقے میں جو فرق ہے بیان کیا جائے۔ تو اس پر وہ مولوی صاحب خاموش ہو گئے۔ آپ نے فرمایا کہ مولوی! جب نہیں استنجا کا طریقہ ہی معلوم نہیں تو تم مناظرہ کیا کرو گے۔ وہ مولوی صاحب تو مبہوت ہو گئے۔ اور حضرت مولانا محمد غوث صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اٹھ کر خان میر زمان خان صاحب کے منہ پر ہتھ پڑ مارا اور فرمایا کہ مجھے اس مقصد کے لئے بلایا گیا ہے۔ آپ تو یہ فرما کر تشریف لے گئے بعد میں خان صاحب نے سنیں کر مولوی صاحب سے کہا دیکھو کیا مولوی صاحب یہ میرے مولوی نہیں بلکہ میرے خان ہیں یعنی افسرد آقا۔

## تصنیفات

شیخ التفسیر والحدیث مفسر قرآن محدثِ زمان علامہ دور ال اپنے دور کے شیخ کل اور اُستادِ کل غوثِ وقت حضرت مولانا محمد غوث صاحب محدث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ کے کتب خانہ میں آپ کی اپنی چند تصنیفات اب بھی موجود ہیں۔ تصنیفات الایمان کا فارسی زبان میں عالمانہ رد ہے اور بزرگوں سے سنا تھا کہ سب سے پہلے تصنیفات الایمان کا رد آپ ہی نے لکھا تھا اور یہ بات قرین قیاس بھی ہے کیونکہ آپ کا زمانہ کتاب تصنیفات الایمان کی تصنیف کے قریب ہی تھا اور تصنیفات الایمان کا جو رد حضرت مولانا محمد نعیم الدین صاحب آداب دی علیہ الرحمۃ نے لکھا ہے وہ بعد میں لکھا گیا ہے۔

۱۲۔ تاریخ دہلیہ ہندوستان“ اس کتاب میں یہ بتایا گیا ہے کہ دہلیت ہندوستان میں کیسے آئی۔ یہ دونوں کتابیں اجماعی ضخیم ہیں اور قابل قدر علمی ذخیرہ ہے۔ مثال کے طور پر تصنیفات سے ایک حوالہ نقل کرتا ہوں۔ جو مثنیٰ از نمونہ خردار سے ہے۔ جس سے اس کتاب کے علمی مقام کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ حضرت موصوف رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیرات احمدیہ لکھا احمدیوں

استاذ اور نگ زیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے حوالہ سے لکھا ہے۔ کہ سورہ جمعہ کے آخر میں جو ارشاد خداوندی ہے۔ **فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوٰةُ فَانْتَشِرُوْا فِي الْاَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ الْاَيَّتِ**۔ یعنی جب نماز جمعہ ادا کر لی جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔

منشاء خداوندی یہ ہے کہ نماز جمعہ کے بعد زمین میں پھیل جاؤ یعنی مزارات اولیاء اللہ پر حاضری دو۔ وہاں ان کی بارگاہوں میں حاضر ہو کر اللہ کا فضل تلاش کرو۔

یہ تو ایک نمونہ تھا بہر حال کتابیں قابل قدر ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ان کا فارسی زبان سے اردو میں ترجمہ ہو جائے تاکہ عوام و خواص ان کے علمی گوہر پاروں سے مستفید ہو سکیں۔

تصنیف ۳۰۰۔ نظم مائتہ عامل جو علم سخن کی ابتدائی کتاب ہے اور جس کے بارے میں محقق علماء فرماتے چلے آئے ہیں۔ کہ اگر اس کتاب کو مبتدی طالب علم اچھی طرح پڑھے تو آگے چل کر اس کے لئے علم سخن کی بڑی کتابیں آسان ہو جاتی ہیں۔ کیونکہ اگر بنیاد اچھی اور عمدہ ہو تو دیوار کے بھی مضبوط اور عمدہ ہونے کی امید کی جاسکتی ہے۔ اور اگر بنیاد ہی خراب اور کمزور ہو تو دیوار کے مضبوط ہونے کی کیا امید ہو سکتی ہے۔ کیا خوب فرمایا ہے کسی شاعر نے۔

خشتِ اول چوں بہند مہمار کج      تاثر یا مے رود دیوار کج  
یعنی اگر بنیاد ہی معیاری ٹھوسی لگائے تو پروین یعنی آسمان تک بھی اگر دیوار  
ادبچی چلی جائے تو ٹیڑھی ہی ہوگی۔

حضرت موصون رحمۃ اللہ علیہ نے اس اصول کو پیش نظر رکھتے ہوئے مبتدی طلباء پر یوں کرم فرمایا ہے۔ کہ نظم مائتہ عامل کی شرح لکھ ڈالی۔ مگر اس زمانے میں چونکہ اردو تصنیفات کا رواج نہ تھا۔ عموماً علماء عربی اور فارسی کو ہی ذریعہ تحریر بنایا کرتے تھے۔ حضرت موصون نے یہ کتاب بھی فارسی زبان ہی میں لکھی ہے۔ کاش! کہ اب اس کا اردو زبان میں ترجمہ ہو جائے اور اساتذہ اور تلامذہ دونوں فائدہ اٹھائیں۔

حضرت علامہ مولانا محمد عوث صاحب محدث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ اہل سنت کے  
 اور اتباع شرع شریف میں اس قدر مضبوط اور سختی سے پابند تھے۔ کہ شرع شریف کے  
 کے خلاف کوئی عمل اور اہل سنت کے عقائد کے خلاف کوئی عقیدہ آپ کو ایک آنکھ نہیں  
 بھاتا تھا۔ حضرت علامہ قاسی غلام محمود صاحب مدظلہ العالی فرماتے ہیں۔  
 کہ موضع کوٹھہ علاقہ غیر کے ایک مولوی صاحب پر اس کے گستاخ اور دہابی العقیدہ  
 ہونے کی وجہ سے آپ نے فتویٰ کفر دے دیا تھا۔ مولوی صاحب کی طرفداروں میں موضع کوٹھہ  
 کے چند پٹھان خوانین حضرت مولانا محمد عوث صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے گاؤں موضع کھلاہٹ  
 میں رئیس کھلاہٹ خان میر زمان خان صاحب کے پاس آئے اور خان صاحب سے کہا۔ کہ  
 اپنے مولوی کو بلا کر اس بارے سمجھاؤ۔ خان صاحب نے جواب دیا۔ کہ یہ مولوی صاحب  
 میرے مولوی نہیں ہیں۔ یعنی میرے ماتحت نہیں۔ وہ بڑے زبردست ہیں۔ کوئی ان سے  
 بات کرنے کی جرأت نہیں کر سکتا۔ مگر ان خوانین نے اپنی بات پر بہت اصرار کیا۔ بالآخر  
 خان صاحب نے حضرت کو بلا بھیجا۔ جب آپ تشریف لے گئے۔ تو کسی کو آپ سے کچھ کہنے  
 کی جرأت نہ ہو سکی۔ تو خود آپ نے پوچھ لیا۔ کہ خان صاحب مجھے کس مقصد کے لئے بلایا  
 گیا ہے۔ تو خان میر زمان خان نے عرض کیا۔ حضور علاقہ غیر کے یہ چند معزز خوانین آپ  
 کی خدمت میں اس غرض سے حاضر ہوئے ہیں۔ کہ آپ نے جو موضع کوٹھہ کے مولوی صاحب  
 پر اس کے گستاخ انبیاء علیہم السلام دہابی العقیدہ ہونے کی وجہ سے فتویٰ کفر صادر فرما  
 دیا ہے۔ وہ واپس لے لیں۔ یہ بات سن کر آپ نے زبانی تو کوئی جواب نہ دیا۔ بلکہ اٹھ  
 کر رئیس کھلاہٹ خان صاحب مذکور کے منہ پر تھپڑ مارا۔ کہ مجھے اس مقصد کے لئے بلایا گیا  
 تھا۔ بس یہ فرما کر واپس تشریف لے گئے۔ اور کسی کو آپ سے مزید بات کرنے کی جرأت نہ  
 ہو سکی۔ یہ مکتی آپ کی غیرت مذہبیہ دلتیہ۔ اور علماء میں اس قسم کی حق گوئی اور بے باکی  
 اور شرع کے مقابلے میں دنیا اور دولت کی پرواہ نہ کرنا۔ یہ صرف چند نفوس ہی کو نصیب ہوئی  
 ہے۔ اور حضرت موصوف کے زمانہ میں تو صرف یہ آپ ہی کا حصہ تھا۔ ہاں تو آپ کے  
 تشریف لے جانے کے بعد خان میر زمان خان نے ان لوگوں سے کہا۔ کہ دیکھ لیا نا تم لوگوں

نے میں نے جو کہا تھا۔ کہ یہ مولوی صاحب میرے ماتحت نہیں۔ سنا ہے کہ وہ خوانین پھر موضع سرکیوٹ گئے۔ اور پھر وہاں سے حضرت کو مناظرے کے لئے بلایا گیا۔ بظاہر تو مناظرے کی دعوت تھی۔ اور درپردہ آپ کو قتل کرنے کی سازش تھی۔ چونکہ موضع سرکیوٹ پہاڑ پر اونچی جگہ واقع ہے۔ انہوں نے یہ منصوبہ بنایا تھا کہ جب آپ سرکیوٹ کی گھاٹی دھکی پر چڑھیں تو وہیں ان کو مار ڈالا جائے۔ چند اصحاب نے اس خفیہ منصوبے کی اطلاع آپ کو دے دی۔ اور پھر آپ سے عرض کیا۔ کہ آپ ہرگز سرکیوٹ تشریف نہ لے جائیں۔ کیونکہ وہاں جان کا سخت خطرہ ہے۔ مگر آپ نے سنس کر فرمایا کہ کوئی بات نہیں اللہ فضل کرے گا۔ میں ضرور جاؤں گا۔ ان اصحاب نے عرض کیا کہ آپ اگر ضرور تشریف لے جانا ہی چاہتے ہیں۔ تو پھر ذرا نرمی سے کام لیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں حق بات سے گریز نہیں کر سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے ساتھ نرمی کا برتاؤ ہرگز نہیں کر سکتا۔ چنانچہ آپ تشریف لے گئے۔ موضع سرکیوٹ میں مجلس منقذہ کے اندر وہ مولوی صاحب کو کھڑے کر کے بھی موجود تھے۔ ان معزز خوانین نے آپ سے عرض کیا کہ حضرت دیکھو یہ سارے مولوی صاحب ہیں اور بڑے نیک آدمی ہیں۔ آپ نے جو ان پر فتویٰ کفر دیا ہے یہ واپس لے لیں۔ کیونکہ اس میں نہ صرف ان کی بلکہ ہم سب سچان و خوانین برادری کی بے عزتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے ان پر بلا وجہ فتویٰ کفر نہیں لگایا۔ انہی سے پرچہ لو کہ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کلمستان میں فلاں فلاں باتیں کہتے ہیں یا نہیں۔ چنانچہ مولوی صاحب نے دریاقت لیا کیا۔ انہوں نے اقرار کر لیا۔ اس پر حضرت نے ان خوانین سے فرمایا کہ اب تم اپنے ایمان کی روشنی میں خود ہی فیصلہ کر لو کہ یہ باتیں گستاخانہ ہیں یا نہیں۔ پھر گستاخی بھی میری یا میرے باپ کی نہیں۔ بلکہ آقائے کُل مولائے کُل ہادی سبیل شہنشاہ کونین مدنی تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب عالیہ میں گستاخی ہے۔ اب یہ گستاخی کون برداشت کرے۔ مجھ سے تو یہ نہیں ہو سکتا۔ اگر تم اسے رد رکھتے ہو تو یہ تمہیں مبارک ہو۔ میں تو بس معذور ہوں۔ معنا ہے کہ بعد میں ان خوانین نے حضرت مولانا محمد غوث

صاحب کی ہی حمایت کی۔

شیخ الاسلام حضرت علامہ قاضی محمد عبدالسبحان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ مولوی موصیٰ کوٹھہ والا اسماعیل دہلوی مصنف کتاب تقویت الایمان کا مشاگرد تھا۔ اور اپنی جماعت میں اتنا عالم اور اعلیٰ ذہن کا مالک تھا۔ کہ تین دن میں اس مولوی نے علم صوفی کو مکمل طور پر پڑھ لیا تھا

بہر حال یہ مولوی تو ایسا مبہوت ہوا کہ اس کو بات کرنے کی بھی سکت نہ ہو سکی۔ اور یوں آپ کامیاب و کامران واپس ہوئے۔

میر عالم خان ساکن کھلابٹ جامع مسجد کھلابٹ کے کنوئیں کے قریب کھڑا تھا۔ کہ ادھر سے حضرت مولانا محمد عنوث صاحب تشریف لے آئے۔ فرمایا میر عالم! کیا نماز پڑھ چکے ہو۔ عرض کی نہیں۔ فرمایا نماز پڑھو۔ عرض کیا حضور میرے کپڑے ناپاک ہیں۔ فرمایا کہ نماز پڑھو اور ابھی پڑھو۔ میر عالم خان (مذکورہ) دائمی تارک الصلوٰۃ اور نماز کی قطعی پرداہ نہ کرنے والا شخص تھا۔ اور وہ پٹھان لوگ تھے بھی سخت مزاج۔ معمولی سی بات پر لڑائی جھگڑا مول لے لیا کرتے تھے۔ مگر اس موقع پر حضرت موصیٰ کے سامنے اس کو تکرار یا انکار کی برأت نہ ہوئی۔ مجبوراً چادر کسی دوسرے آدمی سے مانگ کر نماز ظہر ادا کی۔ پھر آپ نے تاکیداً اس سے فرمایا۔ خبردار آئندہ نماز نہ چھوڑنا۔ سنا ہے کہ میر عالم خان کچھ عرصہ تک نماز پڑھتا رہا۔

فیض محمد خان مرحوم کے دادا خان عبداللہ خان رئیس اعظم کھلابٹ پکے نمازی اور نیک آدمی تھے۔ ان کا مکان بتی کے دوسرے سرے پر حضرت عنوث زمانہ محمد عنوث صاحب ہزار دی رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد سے بہت دور واقع تھا۔ اس کے باوجود خان صاحب مذکورہ نے حضرت کی اقتداء میں ادا کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ عشاء کی نماز حضرت نے وقت مقررہ پر پڑھا دی۔ اور عبداللہ خان صاحب کو کسی وجہ سے دیر ہو گئی۔ وہ شامل جماعت نہ ہو سکے۔ بعد میں آئے اور حضرت سے عرض کرنے لگے کہ آپ کو اتنا تو خیال کرنا چاہیے تھا کہ عبداللہ نہیں آیا۔ نماز میں ذرا تاخیر کر دیتے۔ اس پر آپ نے

جلال میں آکر فرمایا۔ کہ عبد اللہ! نماز اللہ کی ہے نہ تیری اور نہ تیرے باپ کی ہے۔ اس کو وقت معززہ پر ہی ادا کیا جائے گا۔ اس میں کسی کا لحاظ اور رعایت نہ ہوگی۔

## درس

غوثِ زمان شیخِ وقت حضرت مولانا محمد غوث صاحب ہزاروی علیہ الرحمۃ کے درس و تدریس کا حلقہ بہت وسیع تھا۔ روئے زمین پر بالخصوص ہندوستان میں بڑے بڑے علماء کو آپ سے استفادہ کا فخر حاصل تھا۔ انسانوں کے علاوہ جنات بھی آپ کے شاگردوں میں شامل رہتے تھے۔ موضع کھلابٹ کا بہادر بابا مرحوم جو ایک نیک اور پکا نمازی تھا جس کا ایک حدی سے کچھ زیادہ عمر میں ابھی ۱۹۹۱ء میں انتقال ہوا ہے۔ بابا مرحوم بھی حضرت کے شاگردوں میں شامل رہا ہے۔ بابا مرحوم چونکہ ایک سچا اور قابلِ اعتماد آدمی تھا۔ اس لیے اس کی نقل و روایت پر اعتماد کرتے ہوئے واقعہ درج کیا جاتا ہے۔ وہ یہ کہ بابا صاحب مرحوم نے بتایا۔ کہ ایک مرتبہ حضرت مولانا محمد غوث صاحب ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد جن نے آپ کی خدمت میں درخواست کی۔ کہ آپ ہمارے وطن کی سیر کریں۔ حضرت نے اس حق کی درخواست قبول فرمائی۔ اور وہ آپ کو اٹھا کر لے گیا۔ راستے میں اس جن نے عرض کی کہ حضور آڈ آپ کو ایک عجیب منظر دکھاؤں۔ اور آپ کی خدمت میں کچھ نذرانہ پیش کراؤں۔ چنانچہ آپ کو وہ ایک گاڈوں میں لے گیا۔ اُس گاڈوں میں ایک جوان جس کی اگلے دن شادی ہوئی تھی، رات کو سانپ کے ڈسنے سے مر گیا تھا۔ اور لوگ اسے رو رہے تھے۔ بہت شور و غل برپا تھا۔ وہ جن حضرت کو اس گھر کے قریب لے گیا۔ اور گھر والوں سے انسانی شکل و صورت میں ظاہر ہو کر کہنے لگا۔ کہ تمہارا مردہ زندہ ہو جائے تو تم مجھے کیا دو گے۔ انہوں نے کہا کہ تمہارا جو جی چاہے۔ بالآخر بات اس پر ٹھہری کہ اگر مردہ زندہ ہو جائے تو ہم تین ہزار روپیہ دیں گے۔ تو اس جن نے کہا کہ دلہن کو بلاؤ۔ چنانچہ اس کو بلا یا گیا۔ جن نے دلہن سے کہا کہ تم اسی طرح چار پائی پھینٹ جاؤ جس طرح رات کو سوئی ہوئی تھی۔ چنانچہ وہ عورت اسی مردے

کے ساتھ اسی چار پائی پر لیٹ گئی۔ جن عورت سے کہنے لگا تو اپنے سر کے بال پر پائی سے نیچے لٹکا دئے۔ چنانچہ اُس عورت نے اپنے بال چار پائی سے نیچے لٹکا دیئے اور پھر جن کچھ بڑھنے لگا۔ اتنے میں وہ سانپ آ گیا جس نے دو لہا کو ڈسا تھا اور عورت کے لٹکے ہوئے بالوں پر سے چڑھنے لگا۔ اور جس مقام پر اس جوان کو ڈسا تھا۔ اسی جگہ منہ رکھ کر زہر چوسنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد زہر چوس کر وہ سانپ واپس ان بالوں پر سے ہوتا ہوا چلا گیا۔ جن نے اس جوان کو پلایا اور جھنجھوڑ کر کہا کہ اتنی دیر ہو گئی ہے اور تو اٹھتا نہیں۔ چنانچہ جوان نے آنکھیں میس اور اٹھ بیٹھا۔ گھر والوں کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی اور دوبارہ خوشی کے شادیاں بننے لگے۔ اور وہ لوگ حضرت مولانا محمد عنوث صاحب کے شاگرد جن (جو کہ اس وقت الثانی شکل و صورت میں ظاہر تھا) کے قدموں میں آگرے اور تین ہزار روپیہ بطور نذرانہ پیش کیا۔ اور پورا حق ادا کرنے سے معذرت کرتے ہوئے معافی چاہی۔ جن نے وہ روپے لے کر اپنے استاذ حضرت مولانا محدث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کر دیئے اور پھر جن آپ کو اٹھا کر اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ جب وہ اپنے گھر کے قریب پہنچنے والا تھا تو حضرت سے کہنے لگا۔ کہ دیکھو ٹھمیری ماں کھڑی ہے آپ نے جو دیکھا۔ تو وہ دور سے بالکل چھوٹی دکھائی دیتی تھی۔ جس کا قدم صرف ایک باشت نظر آتا تھا۔ جب آپ وہاں پہنچ گئے تو قریب سے جو دیکھا تو جن کی والدہ کا قد آسمان تک پہنچا ہوا تھا یعنی بہت ہی اونچا۔ اور عورت سے اس جگہ کو جو دیکھا تو ان جنات کا ڈیرہ ایک کھلیان کے اندر لگا ہوا تھا۔ جن نے آپ کو وہاں کی سیر کرائی اور اپنے رشتہ داروں سے معارف کرایا۔ اور ان سب نے باری باری آپ کے قدم چومے۔ اور تین دن آپ کو جن نے اپنی قیام گاہ پر ٹھہرایا۔ تین دن کے بعد آپ کی خدمت میں تحفے تحائف پیش کر کے آپ کو رخصت کیا۔

را بابا بہادر خان مرحوم ہی بیان کرتے ہیں۔ کہ ایک مرتبہ ایک سپیرا میں بجاتا ہوا حضرت مولانا محمد عنوث صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے آبائی گاؤں موضع کھلابٹ کی مسجد

جو آپ کی طرف منسوب ہے۔ اور جس میں آپ کے شاگرد طلباء رہا کرتے تھے کے قریب سے گزرا۔ حضرت کے ایک شاگرد جن نے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ کہ حضرت آپ اس سپیرے کو بلائیں۔ میں سانپ بنتا ہوں۔ آپ اس سے کہیں کہ بیماری مسجد میں ایک سانپ ہے۔ تم اسے پکڑ لو۔ جن نے حضرت کی خدمت میں عرض کی۔ کہ اگر میں اس سپیرے پر غالب آگیا تو آپ کو اور دوسرے حاضرین کو عجیب منظر دکھا کر محفوظ کروں گا۔ اور اگر خدا نخواستہ یہ مجھ پر غالب آجائے تو آپ کسی طریقہ سے مجھ کو اس کے پنجہ سے چھڑالیں۔ اب وہ جن سانپ بن گیا۔ اور آپ نے اس سپیرے کو بلا یا سپیرا آگیا۔ اور اس نے پہن بجانا شروع کر دی۔ وہ جن سانپ کی شکل میں تھا۔ باہر نکل آیا۔ یہاں تک کہ مسجد میں نماز کی اس حد تک جا پہنچا جس سے باہر وہ سپیرا کھڑا بین بجار ہا تھا۔ سپیرے نے سانپ کو جو دیکھا تو حضرت سے کہنے لگا۔ اگر میں نے اس سانپ کو پکڑ لیا تو میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ اور پھر اس نے کچھ ایسا منتر پڑھا کہ وہ سانپ ادھر ادھر بھاگنے لگا۔ اور اپنا سر زمین پر بیٹھنے لگا۔ اور سپیرا کہنے لگا۔ کہ بھاگتا کیوں ہے میں تجھے چھوڑوں گا نہیں۔ بالآخر اس سپیرے نے سانپ کو پکڑ لیا حضرت نے کوشش کی کہ سپیرا اس کو چھوڑ دے مگر وہ اس کے چھوڑنے پر رضا مند نہ ہوا اور کہنے لگا حضور! اگر یہ سانپ خدا نخواستہ مجھ پر غالب آجاتا تو میرے لئے کوئی ٹھکانا نہ تھا۔ اب میں اسے کیسے چھوڑ سکتا ہوں۔ مگر آخر کار آپ کے اصرار پر اس نے سانپ کو چھوڑ دیا۔ اور آپ نے اس کو دس روپے دیئے۔ اور جب وہ سپیرا چلا گیا تو آپ نے اس جن سے دریافت فرمایا کہ تجھے کیا ہو گیا تھا۔ کہ تو بھاگنے اور زمین پر سر بیٹھنے لگا تھا اس نے آپ کو بتایا کہ حضرت اس سپیرے نے مجھ پر کچھ ایسا منتر پڑھا تھا۔ کہ مجھے آگ لگ گئی تھی۔ اس وجہ سے میرے ٹھہرنے کا کوئی مقام نہ تھا۔ یہ دونوں واقعات مجھے ماہر علوم عقلیہ و نقلیہ معالج غلام و باطن علامہ زماں فخر دوران ابو الفتح قاضی غلام محمد محدث ہزاروی مدظلہ العالی نے بتائے ہیں۔ (غلام سرور)

عزیز زماں حضرت مولانا محمد عوث صاحب محدث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ کے



شاگردوں کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ ہر فن بالخصوص تفسیر و حدیث اور فقہ کے پڑھنے کے لئے شاگفتین علوم اور پروانوں کا آپ کے گرد ہجوم رہتا تھا۔ آپ کے دن رات کے مشاغل میں علاوہ درس و تدریس کے فتاویٰ نویسی بھی شامل تھی اور آپ دور دراز سے آئے ہوئے فتووں اور دینی سوالات کے جوابات دیا کرتے تھے۔ اور چونکہ بڑی بڑی کتابیں بھی طلباء کے زیر تعلیم تھیں اور آپ ان کو نہایت جانفشانی اور شفقت سے پڑھاتے تھے۔ اس لئے طلباء کے مزید فائدے کے پیش نظر چند کتابوں کا رات کو مطالعہ بھی فرمایا کرتے تھے۔

موضع کھلاہٹ کے قریب ایک بہت پرانا قبرستان ہے۔ اس کے اندر پیری کے بہت پرانے اور گھنے درخت ہیں۔ اسی قبرستان میں حضرت مولانا محمد عنوث ہزاروی رحمۃ اللہ کے دادا حضرت شیخ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ مدفون ہیں۔ سردیوں میں گاڈوں کا مسجدوں کے خادم نمازیوں کے لئے پانی گرم کرنے کے لئے قبرستان کے اسی جنگل سے ہمیشہ خشک لکڑیاں لاتے ہیں۔ اور درس گاہ کے طلباء بھی ہمیشہ یہاں سے اپنے جلانے کے لئے لکڑیاں لایا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت مولانا محمد عنوث صاحب ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ کے وقت طلباء جو خشک لکڑیاں لانے کے لئے اس قبرستان میں گئے اور ایک طالب علم خشک ڈالی توڑنے کے لئے ایک درخت پر چڑھ گیا تو اچانک نیچے آگرا اور وہیں مر گیا۔ حضرت اس وقت کہیں باہر تشریف لے گئے تھے۔ واپسی پر جب آپ کو اس واقعہ کی اطلاع ہوئی تو آپ اس مقام پر تشریف لے گئے تو دیکھا کہ درخت کے نیچے ایک شہید کی قبر ہے۔ آپ نے اس شہید سے مخاطب ہو کر کہا کہ اتنا جلال بھی نہیں سونا چاہیے۔ کہ اُس بے چارے پر ویسی کی جان ہی لے لی۔ آخر اس نے کیا تصور کیا تھا، خشک لکڑیاں ہی تو توڑ رہا تھا۔ جو دوسرے طلباء اور مسجدوں کے خادم بھی لے جاتے ہیں۔ بس یہ کہہ کر آپ واپس آ گئے۔ رات عشاء کے بعد سونے کے وقت جو طلباء کی زیر تعلیم کتب کا مطالعہ کرنے بیٹھے تو دیکھتے کیا ہیں کہ کتابوں کے اوراق سب سفید ہی سفید ہیں، کوئی حرف ان میں لکھا ہوا نہیں۔ ادھر ادھر سے

دوق پٹائے گئے۔ مگر سب سفید آخر پریشان ہو کر کتابیں پھوڑ دیں اور وفائف پڑھنے لگے۔ مگر پھر بھی کوئی تاثیر ظاہر نہ ہوئی۔ بالآخر سحری کے وقت اپنے پیر خانہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ جو کہ حوزہ غشی شریف میں تھا۔ اپنے مرشد صاحب کی خدمت میں جو حاضر ہی ہوئی تو آپ نے پوچھا کہ اتنے سویرے کیسے آنا ہوا۔ آپ نے وہ تمام ماجرا سنایا اس پر آپ کے مرشد صاحب نے فرمایا کہ اب تو انشاء اللہ معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ مگر آئندہ آپ احتیاط کریں۔ ان قبروں والوں میں بعض جلالی بھی ہوتے ہیں۔ جو خلاف طبع معمولی سی بات بھی برداشت نہیں کرتے۔ چنانچہ آپ اپنے حضرت کی دست بوسی کے بعد واپس چلے آئے اور بدستور درس و تدریس میں مصروف ہو گئے اور کتابوں میں لکھا ہوا بدستور سب کچھ صحیح نظر آئے گا۔

دافع ہو کہ اولیاء و فقراء خواہ وہ بقیہ ہیں۔ ظاہری ہوں۔ یا قبروں میں بزرخی زندگی رکھتے ہوں ان میں دو قسم کے اولیاء و فقراء ہوتے ہیں، جمالی بھی اور جلالی بھی۔ چنانچہ اس پر ایک مستند واقعہ مقرر کیا جاتا ہے۔ جو کہ شیخ الاسلام والمسلمین سلطان المناظرین فخر المتکلمین حضرت علامہ مولانا قاضی محمد عبدالسبحان صاحب ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا تھا۔ کہ

ایک مرتبہ کسی شہر میں کسی آدمی نے ایک اللہ والے اہل نظر سے پوچھا۔ کہ حضرت فقراء میں جمالی اور جلالی کیسے ہوتے ہیں۔ تو آپ نے اس کا شوق دیکھ کر فرمایا کہ فلاں بازار میں چلے جاؤ۔ وہاں ایک موچی بیٹھا لوگوں کے جوتے مرمت کر رہا ہے۔ وہ جمالی ہے۔ چاہے جتنی بار کبھی اس سے جوتا مرمت کراؤ گے۔ وہ غصے نہیں ہوگا۔ چنانچہ وہ شخص ان صاحب کے پاس چلا گیا۔ اور جوتا مرمت کرنے کے لئے ان کو کہا۔ تو ان صاحب نے اس شخص کو وہ جوتا اچھی طرح مرمت کر کے دیا۔ مگر یہ شخص تو چونکہ گیا ہی امتحان کی غرض سے تھا، جوتے کی مرمت کو ناپسند کرتے ہوئے بڑی بھلی باتیں کرنے لگا۔ تو اس پر اس بزرگ نے بجائے غصہ کے ظہاریت نہ فرمایا کہ یہ کون سی بات ہے۔ اگر جوتے کی مرمت پسند نہیں تو لاؤ

ادھر میں دوبارہ چھی طرح مرمت کر دیتا ہوں۔ چنانچہ وہ جوتا دوبارہ مرمت ہوا۔ اس شخص نے اسے پھر ناپند کیا اور بڑا سھیلا کہا۔ ایک دفعہ پھر اس بزرگ نے جوتے کی مرمت کی۔ اور پورے امتحان کے بعد وہ شخص واپس آ گیا۔ جب وہ شخص اس امداد کے پاس آیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ دیکھ لیا نا! یہ جوتے ہیں جمالی! اب اگر جلالی بزرگ کو دیکھنا چاہتے ہو۔ تو شہر کی کچھری کے پاس چلے جاؤ وہاں ایک بوڑھا آدمی بیٹھا تر بوز بیچ رہا ہے۔ وہ جلالی ہے۔ دیکھنا ذرا سوچ کر بات کرنا۔ چنانچہ وہ شخص اس بوڑھے بزرگ کے پاس پہنچ گیا۔ اور ان سے پوچھا کہ کیا تر بوز بیچتے ہو۔ اس پر آپ نے ذرا سختی سے فرمایا۔ کہ کیا اندھا ہے دیکھتا نہیں کہ بیچ ہی رہا ہوں۔ پھر اس شخص نے ایک تر بوز اٹھایا اور اس کی قیمت پوچھی پھر اس کو چھوڑ کر دوسرا تر بوز اٹھایا۔ اور اس کی قیمت پوچھی۔ پھر تیسرا تر بوز اٹھایا اور اس کی قیمت پوچھی۔ تو اس بزرگ نے جلال میں آکر اس خریدار کو دو چار جوتے لگائے اور فرمایا کہ کیا تو نے ہر ایک کو وہی موچی سمجھ رکھا ہے۔ اور جب وہ شخص اس بتانے والے بزرگ کے پاس آیا تو انہوں نے فرمایا۔ کہ اب دیکھ لے نا جلالی، جمالی (واقعہ ختم ہوا) ہمیشہ جلالی فقروں سے دور رہنا چاہئے۔ اور جمالی فقرا کا قرب بہت مفید ہوتا ہے (ابوالفتح)

## کتاب فیوضات سبحانیہ ۲۵ مناظروں کی تفصیلی روئیداد پر چھنے

جس میں عقائد و اختلافی مسائل پر محققانہ دلائل اور بعض فروعی حنفی مسائل پر گرانمایہ تحقیق مندرج ہے۔ جس کو متحدہ ہندوستان کی یونیورسٹیوں کے مانے ہوئے عالم مفتی کفایت اللہ صاحب دہلوی نے تسلیم کر کے اپنے پہلے فتویٰ سے رجوع کر لیا تھا۔ مثلاً شبانہ تحقیق کے لئے گراں مایہ جو ایر پارے۔

قیمت

ولنے کا پتہ:۔ کتب خانہ غوثیہ تہریہ جی۔ ٹی۔ روڈ۔ جبارہ۔ جہلم

# حضرت مولانا محمد غوث کا مطالعہ کتب میں انہماک

حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا۔ کہ شیر سرحد حضرت مولانا محمد غوث صاحب محدث نزاروی رحمۃ اللہ علیہ طالب علمی کے زمانہ میں نبیؐ میں تعلیم پڑھے تھے اور اتفاق سے جس مسجد میں آپ کا قیام تھا۔ وہ میراثیوں اور کنجروں کے محلہ میں واقع تھی۔ وہ لوگ دم رات ادبچی آواز سے گاتے اور ڈھول بجاتے رہتے تھے۔ مگر حضرت فرماتے تھے کہ میرے مطالعہ کتب میں کچھ فرق نہیں پڑتا تھا۔


شیر سرحد خطیب زمانہ حضرت مولانا محمد غوث صاحب۔ المعروف بڑے اجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک سو بیس سال عمر ہوئی ہے۔

حضرت والد صاحب فرماتے تھے کہ آپ ہوش سنبھالنے کے بعد سے اپنی عمر کے چالیس سال پوسے ہونے تک دینی علم حاصل کرتے رہے۔ اور پھر چالیس سال تک تدریس اور علم میں مصروف رہے۔ اور لبقیہ عمر آپ نے زہد اور گوشہ نشینی میں گزار دی ہے۔ صحیح طور پر آپ کا سن معلوم نہیں ہو سکا۔ البتہ حضرت والد صاحب سے اتنا سنا تھا کہ آپ کی زندگی کا کچھ حصہ انگریزوں کے ہندوستان میں آمد کے ابتدائی دور میں گزرا ہے۔

آپ کا انتقال اُس مکان میں ہوا۔ جو اب برادرم مفتی سعید الرحمن صاحب کے نامزد ہے۔ اور آپ کو قطب ارشاد شاہ شیر محمد غازی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر انوار کے قریب موضع داڑھی کے مشہور قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا۔

فقیر پر تقصیر نے حالت کشف میں دیکھا ہے کہ بڑے اجی صاحب حضرت موصوف کا قد لمبا۔ رنگ سانولا۔ جسم پتلا۔ داڑھی سفید۔ و درمیانی زیادہ گھنی نہیں۔ کپڑے سفید کرتے معمولی ملل کا پہنے ہوئے ہیں۔ اور فقیر نے یہ بھی دیکھا ہے کہ حضرت موصوف میرے اس حالات لکھنے پر بہت خوش ہو رہے ہیں۔ اور فرماتے ہیں بیٹا تمہیں بہت ترقی ہوگی

# شیرسرحد حضرت محمد غوث صاحب محدث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ



باتیں ہوتی رہیں اور بھروسہ مر گیا۔ یہ تھا حضرت کے علاج کا کرشمہ۔  
 بی بی صاحبہ موٹری والی نے اپنے بھائی قاضی صاحب سے کئی مرصوں کے  
 علاج اور دوائیں سیکھ لی تھیں۔ اور آخر دم تک کئی قسم کی شربتیں اور عرق بنایا کرتی  
 تھیں۔ شربت دینار۔ شربت فولاد وغیرہ تیار کرتی تھیں۔ بی بی موصوفہ بہت نیک  
 پابند صوم و صلوات تھیں۔ چاشت اور اشراق تک بھی قضا نہیں ہوتی تھی (مستولفہ  
 کتاب ابو الفتح غلام محمود) نے بی بی صاحبہ کو کئی بار دیکھا ہے۔ ان کے گھر موٹری  
 جانے کا اتفاق بھی کئی دفعہ ہوا۔ اور وہ خود بھی کئی مرتبہ موضع کھلابٹ تشریف لے  
 گئیں۔ ہمارے خاندان کی ان پرانی بیبیوں کا کہیں جانے آنے میں طریقہ یہ تھا۔ کہ  
 رات کے وقت عشاء کے بعد اپنے کسی قریبی رشتہ دار یا محرم کے ساتھ گھر سے نکلتی  
 تھیں۔ یہاں تک کہ موضع موٹری سے کھلابٹ (جو ۱۲-۱۴ میل سے کم فاصلہ نہ ہوگا)  
 بھی اگر جانا ہوتا۔ تو گھوڑی پر سوار ہو کر رات کے اندھیرے میں بی بی موٹری والی  
 اپنے خاندان کا نام حضرت میر صاحب سے کے ساتھ گھر سے نکلتیں اور کئی مرتبہ رات  
 کے دو یا تین بجے کھلابٹ پہنچتیں۔

موضع ڈھینڈہ والی بڑی بی بی ہمارے والد صاحب کی بھوپھی صاحبہ کا بھی  
 آمدورفت میں یہی معمول و طریقہ تھا۔ یہاں تک کہ ہماری وہ بھوپھی صاحبہ (جو وفات  
 پا گئی ہیں۔ اور ان کی قبر موضع داڑی کے آبائی قبرستان میں ہے) کو بھی اسی طریقہ پر  
 چلتے دیکھا ہے۔ خدا رحمت کرے ان بیبیوں پر جو بیکہ عفت، اور شرم و حیا کا نمونہ  
 تھیں۔ اگر کسی اپنے قریبی گھر میں جانا ہوتا تو عورتیں ان کو رات کے اندھیرے میں  
 اٹھا کر لے جاتی تھیں۔ سنا ہے کہ ہمارے پرانے مکان (جو اب برادرم منشی سیف الرحمن  
 صاحب کے نامزد ہے) کے پڑوسی کریم جید زرگر کی والدہ شہناز بیگم جی اور شاہ حسین دکاندار کھلابٹ  
 پڑوسی کی والدہ جن کا نام محرم جی تھا۔ ہمارے گھر کی بیبیوں خصوصاً حضرت والد صاحب  
 کی بھوپھی موضع ڈھینڈہ والی اور بھوپھی موضع جوڑا پنڈ والی کو رات کے اندھیرے  
 میں خود اٹھا کر یا کسی بالکی وغیرہ میں ازراہ ادب اٹھا کر ان کے کسی قریبی گھر میں لے

باتیں۔ جہاں انہوں نے کسی خاص ضرورت کے تحت یہاں ہوتا تھا۔ مثلاً بڑے بھائی صاحب کے گھر۔ حضرت والد صاحب کی ڈھینڈھ والی پھوپھی صاحبہ کو میں نے بھی کئی دفعہ دیکھا۔ اور ان کی مجلس میں بیٹھا ہوں۔ ان کی باتیں سنی ہیں۔ بہت نیک اور پارسا۔ تہجد، اشراق، چاشت وغیرہ نمازوں کی پابند خاتون تھیں۔ غالباً ان کے پاس میں نے بڑا قرآن مجید بھی دیکھا ہے۔ جو شیرسرمد حضرت مولانا محمد عنوث صاحب المعروف بے بڑے اجی صاحب نے ان کو دیا تھا۔ یہ عترت اکثر تلاوت قرآن مجید میں مصروف رہتی تھیں۔ ان کی باتیں گہرے غور اور عقل و فہم کا نتیجہ ہوتی تھیں۔ سننے والا ان کی گفتگو سن کر ان کی دانائی و عقلمندی کا قائل ہو جاتا۔ اور ان کے تدبیر کو خراجِ تحسین پیش کئے بغیر نہ رہ سکتا۔

حضرت جدِ امجد مولانا محمد عنوث صاحب المعروف بے بڑے اجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تیسری لڑکی کی شادی موضع جوڑا پنڈ تحصیل ہری پور کے زمیندار قدرت اللہ صاحب سے ہوئی۔ جناب قدرت اللہ صاحب حضرت خواجہ شمس الدین صاحب سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے۔ حضرت والد صاحب فرماتے تھے کہ قدرت اللہ صاحب موصوف افسوس کے ساتھ کہا کرتے تھے۔ کہ میں اور حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ گولڑہ شریف والے عمو بھائی شریف اکٹھے جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ہم دونوں نے حضرت حضرت پیر سیالوی کی خدمت میں حاضری دی۔ جب داخل ہوئے تو پیر صاحب گولڑوی بس سیدھے سادے مہر علی شاہ ہی دکھائی دیتے تھے۔ مگر جب اندر سے خلافت لے کر باہر نکلے تو پیر صاحب کا رنگ کچھ زالا ہی تھا۔ مگر میں وہی قدرت اللہ رہا جو کہ پہلے تھا۔

## حضرت مولانا محمد منظر جمیل صاحب علیہ السلام کے حالات زندگی

حضرت مولانا محمد منظر جمیل صاحب شیرسرمد، قطبِ زمان حضرت مولانا محمد عنوث صاحب المعروف بے بڑے اجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے صاحبزادے تھے۔

## مطالعہ کتب میں آپ کا انہماک واستغراق

طالب علمی کے زمانہ میں آپ کسی مقام پر (اب اس جگہ کا نام یاد نہیں رہا) دینی تعلیم پڑھ رہے تھے۔ کتاب کا مطالعہ کرنے لبتی سے کہیں باہر تشریف لے گئے۔ کتاب دیکھی مگر ایک مقام کو نہ سمجھ سکے۔ وہاں سے اٹھ کر اس مقام کو سوچتے چلے آ رہے تھے۔ کہ راستے کے قریب کسی زمیندار کا گنٹھا گدھی پر سے گر گیا تھا اور وہ اس کو گدھی پر دوبارہ لا دینے میں مدد کے لئے حضرت کو پکارنے لگا۔ کئی آوازیں دیں۔ مگر یہاں تو کتاب کا مسئلہ حل نہ ہوا تھا۔ یہاں اس کی آواز کو کون سنتا تھا۔ وہ آوازیں دیتا دیتا آپ کے قریب آ گیا اور ہاتھ پکڑ کر کہتا ہے۔ کیا تم دیوانے ہو۔ فرمایا نہیں اللہ کے فضل سے ہوشیار و عقل والا ہوں۔ کہنے لگا اچھے عقل والے ہو کہ آوازیں دے دے کر میرا گلا بیٹھ گیا۔ مگر تم ہو کہ سنتے ہی نہیں۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے۔ فرمایا کہ میں کتاب کے ایک مسئلہ کو حل کرنے کی سوچ میں تھا۔ اس لئے تمہاری آواز نہ سن سکا۔ اور پھر آپ نے گھاس کے اس گنٹھے کو گدھی پر لا دینے میں اس کی مدد فرمائی۔

حضرت والد صاحب (قاسمی محمد عبدالسبحان صاحب رحمۃ اللہ علیہ) فرماتے تھے کہ حضرت موصوف علم نحو و منطق کی درمیانی کتب بھی اچھی طرح پڑھا لیتے تھے۔ مگر علم فقہ میں تو آپ کو مہارت تمامہ حاصل تھی۔ اور آپ ایک بہترین خوش گلو بھی تھے۔ آپ کا وعظ بہت پر اثر ہوتا تھا۔ اکثر حاضرین آپ کے وعظ میں روتے رہتے تھے۔ حضرت والد صاحب فرماتے تھے کہ میں نے ایک دفعہ حضرت موصوف کی خدمت میں عرض کیا کہ میرا عالم ہر موضع کھلا بٹ کا ایک شخص (بہت سخت دل ہے۔ اس پر آپ کے وعظ کا کبھی اثر نہیں ہوا۔ اور یہ کبھی آپ کے وعظ میں نہیں رو یا۔ اس پر حضرت فقیر اعظم نے فرمایا کہ اب کی دفعہ جنتہ المبارک میں میرا عالم مذکور سے کہہ دینا کہ وہ میرے سامنے بیٹھے حضرت والد صاحب فرماتے تھے۔ کہ میرا عالم سے حضرت کے سامنے بیٹھنے کو کہا گیا اور حضرت نے اپنے وعظ میں اس پر اپنی توجہ رکھی۔ اثر یہ ہوا کہ میرا عالم مذکور پھوٹ پھوٹ



کر رونے لگا۔

اس واقعہ سے تو یہ معلوم ہو گیا کہ

**مؤلف کتاب ابوالفتح علام محمد**

حضرت فقیر اعظم نہ صرف خوش الحان

اور ایک اچھے واعظ تھے۔ بلکہ صاحبِ کرامت اور توجہ و نصرت بھی تھے۔ کیونکہ آپ کے پہلے موعظ میں دوسرے لوگوں کا رونا اور میر عالم کا نہ رونا۔ اور پھر حضرت کی خصوصی توجہ سے میر عالم مذکور کا رونا ہی بتلاتا ہے۔ کہ اثر خوش الحانی کی وجہ سے نہ تھا۔ بلکہ آپ کی باطنی توجہ کا نتیجہ تھا۔

**حضرت موصوف ایک کامل اور باعمل عالم تھے**

بمبئی شہر میں کسی شخص کی لڑکی پر جنات کا سایہ تھا۔ کئی عامل لوگوں کو بلایا گیا۔ مگر فائدہ نہ ہوا۔ جو بھی عامل آتا۔ جنات اس پر پتھر پھینکتے اور اس کے اوپر پلیدی پھینک کر اس کے کپڑوں کو پلید کر دیتے تھے۔ اور یوں اس کا عمل بے اثر ہو جاتا۔ آخر حضرت موصوف کو بلایا گیا۔ آپ نے سب سے پہلے مکان کے چار گوشوں پر بانس گاڑ ڈالے۔ پھر ان کے ساتھ سی بندھوا کر چار تونڈ باندھ دیئے۔ جس کا اثر یہ ہوا کہ پتھر تو آتے رہے۔ مگر وہ پلیدی نہ پھینک سکے۔ اور جو پتھر آتے تھے وہ بھی کبھی ادھر اور کبھی اُدھر پونہ جا گرتے تھے۔ کسی کے اوپر نہیں پڑتے تھے۔ پھر آپ نے جنات کو نکالنے کے لئے اصل عمل کیا۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا۔ کہ جنات چلے گئے۔ اور گھر کے لوگ آپ کے مرید ہو گئے۔ بنگال کے اکثر لوگ فقیر اعظم حضرت مولانا محمد مظہر جمیل صاحب مؤلف کتاب کے دادار رحمۃ اللہ اور حضرت مولانا محمد خلیس صاحب محدث ہزاروی رحمۃ اللہ کے مرید تھے۔ آپ سال میں دو دفعہ وہاں تشریف لے جایا کرتے تھے۔ کبھی ایک بھائی اور کبھی دوسرے تشریف لے جاتے تھے۔ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ موضع کھلابٹ کاروشن دین زرگر حضرت مولانا محمد خلیس صاحب کے ہمراہ بنگال جایا کرتا تھا۔ اور آپ ہی کے ذریعہ اس کی دہاں جان پہچان ہو گئی تھی حضرت کے انتقال کے بعد بھی روشن دین زرگر بہتاب دین

کا والد و ملاں جایا کرتا تھا۔ جس کو مؤلف کتاب نے بھی دیکھا ہے۔ اور اس کے بنگال  
ہانے کی خبر کو سنا ہے۔

## فقیرہ اعظم حضرت مولانا محمد منظر ہمدانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے روزانہ کے معمولات

حضرت والد صاحب فرماتے تھے۔ کہ دلائل الخیرات، درود مستغاث۔ سورہ منزل  
مع موکلات، اور دعائے سریانی، و حزب الہم کا پڑھنا روزانہ بعد از نماز فجر آپ کا  
معمول تھا۔ سورہ منزل کے آپ اچھے عامل تھے۔ اور مشہور پندرہ بڑا تعویذ کے بھی آپ  
عامل تھے۔ اور نہ معلوم اور کین کین عملیات کے آپ عامل ہوں گے۔ کیونکہ آپ کے  
سرت مبارک کی لکھی ہوئی اچھی خاصی ضخیم تعویذات و عملیات کی قلمی کتاب اب بھی  
پوسیدہ حالت میں موجود ہے۔ حضرت والد صاحب سے سنا تھا کہ فقیرہ اعظم ان  
تمام عملیات کے عامل تھے جو کہ کتاب مذکور میں درج ہیں۔

جنات حضرت کے فرمان عالی کے تابع تھے۔ ایک  
**جنات کا تابع ہونا** واقعہ جس کو مؤلف کتاب ابو الفتح غلام محمود نے

خود جنابہ بھوپھی صاحبہ مرحومہ (جس کا مزار موضع داڑھی کے قبرستان میں واقع ہے)  
کی زبانی سنا تھا۔ بھوپھی صاحبہ نے بیان کیا۔ کہ ایک دفعہ شام کو حضرت والد صاحب  
(مؤلف کتاب کے دادا جی) رحمۃ اللہ علیہ نے گھر والوں سے فرمایا کہ سالن اور  
روٹی مکان کے اندر میرے مصلے کے پاس رکھ دو۔ اور دروازے کا ایک کواڑ بند  
کر دو۔ اور دوسرا نیم کھلا رہنے دو۔ چنانچہ ہم نے دال اور روٹی آپ کے مصلے (جائے  
نماز) کے پاس رکھ دی اور دروازے کا ایک کواڑ تو بند کر دیا اور دوسرے کے  
آگے لکڑی رکھ کر اس کی ٹیک کے سپارے اس کو یوں نیم کھلا رہنے دیا۔ کھانا کھا  
کہ ہم مکان کے صحن میں چار پائیوں پر لیٹ گئے۔ رات کا کافی حصہ گزرنے کے بعد  
لامٹی جس کے سپارے دروازے کا ایک کواڑ کھڑا تھا۔ گر گئی اور السلام علیکم

السلام علیکم کی دودھ آوازیں آئیں۔ جو بہت ہی باریک آوازیں تھیں۔ اور علامہ حضرت صاحب موصوف بنے جواب میں وعلیکم السلام فرمایا۔ اور ان کی السلام علیکم کے ساتھ ہی درخت کو نیچے پھینکنے کی آواز بھی آئی۔ حضرت نے پوچھا کہاں سے آرہے ہو۔ کہنے لگے کابل سے آرہے ہیں۔ فرمایا کیا کھانا کھایا ہے۔ کہنے لگے جی کیا بتائیں کیا کھایا اور کیا نہیں کھایا۔ ہم آئے ہیں ہری پور کی سمت سے اور ہمیں بھوک لگی ہوئی تھی کھانا کھانا تھا۔ ہم نے سوچا چلو قاضی میر عالم سکندر پور والے کے ہاں چلتے ہیں۔ تو جب ہم اس کے ہاں پہنچے ویسے تو بڑی باتیں بنایا کرتا تھا۔ اور گھر میں جو پکایا تھا۔ اس کا نام رکھا تھا قورمہ۔ مگر یہ خالص پانی دال کا دانہ نظر نہ آتا تھا۔ (گوشت اور دال ملا کر جو پکاتے اسے قورمہ کہتے کرتے تھے) اور وہ لگے قاضی میر عالم کو صلواتیں سنانے۔ حضرت نے فرمایا کہ چلو جانے دو کھانا حاضر ہے کھا لو مگر یہ دال روٹی۔ انہوں نے کھانا لیا اور کھانے لگ گئے۔ کہنے لگے جی یہ دال روٹی قاضی میر عالم کے قورمہ سے اچھی ہے۔ پھوپھی صاحبہ نے فرمایا کہ اس کے بعد حضرت کے ساتھ ان کی باتیں تو کافی دیر تک ہوتی رہیں مگر بالکل آہستہ۔ کہ ہم سمجھ نہ سکتے تھے۔ اور یہی گفتگو کی صحیح سمجھ آتی رہی۔ اور صبح ہم نے دیکھا تو مکان کے اندر ایک بہت بڑا انار کا درخت پختہ اناروں سمیت پڑا تھا۔ اس کے انار جو استعمال کئے گئے تو اس قدر میٹھے نکلے کہ ایسا کوئی انار کھانے میں نہیں آیا تھا۔

ان پھوپھی صاحبہ ہی کی زبانی مولانا کتاب الوافع نے خود سنا ہے کہ حضرت نقیبہ اعظم اپنی موضع جوڑا پنڈوالی ہمیشہ دو گھر جھوڑ نے موضع کھلا بٹ سے رات کو عشاء کے وقت جا رہے تھے۔ آپ کی ہمیشہ صاحبہ گھوڑی پر سوار تھیں۔ اور یہ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ ہمارے خاندان کی مستورات نے جمال بھی جانا ہتھارات کو اپنے کسی محرم کے ساتھ جایا کرتی تھیں۔ اب بھی خدا کے فضل سے اور بزرگوں کے نام و نسبت کی برکت سے اتنا باقی ہے۔ کہ ہمارے گھر کی مستورات کسی کے گھر نہیں جاتیں۔ چاہے مکان کی مشترکہ دیوار کے پیچھے ہی کوٹھوت ہو گیا ہو۔ بڑا سو یا چھوٹا۔ شادی ہو یا غمی ہمارے گھر کی کوئی عورت و پردہ نشین کہیں نہیں

ہائے گد اور خدا بھلا کرے اللہ لوگوں کا کہ اس گئے گزرے دور اور چودھویں صدی کے  
 گزریں بھی وہ ہم سے ناراض نہیں ہوتے۔ اور ہم سے کسی قسم کی رنجش یا شکوہ نہیں کرتے  
 اور اگر ہمارے گھر کوئی شادھی یا عمنی ہو۔ تو سب بڑے چھوٹے لوگوں کی مستورات ہمارے  
 گھر آجاتی ہیں۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ ان کی مستورات کسی شادی یا عمنی کے موقعہ پر رات کے  
 وقت بھی ہمارے گھر نہیں آتیں۔ تو ہم دن میں کیوں جائیں۔ اور یہ طریقہ سالہا سال سے بدستور  
 اب تک جاری ہے۔ یہاں تک کہ اگر ہم اپنے مولد و وطن سے باہر کہیں قیام پذیر ہوں۔ تو  
 بھی اسی طریقہ پر عمل ہوتا ہے۔ چنانچہ مجھے (مؤلف کتاب ابو الفتح غلام محمود کوہپہم شہر  
 میں جامع مسجد عید گاہ کی خطابت پر مامور و مقرر ہوئے بارہ سال گزر چکے ہیں۔ کسی کی  
 شادی یا عمنی میں میرے گھر کی مستورات کبھی نہیں گئیں۔ اور جب میرے بچے محمد منظر سبحان  
 کا انتقال ہوا تو اتنی عورتیں آئیں کہ گھر میں تو نل دھرنے کی جگہ نہیں تھی۔ گلی بھی بھری  
 بڑی تھی۔ اور بالآخر مکان کی قریبی سڑک پر قناتیں لگانا پڑیں اور یہ سب کچھ انڈیا کا فضل  
 اور پردہ نشینی کی برکت ہے۔ اس سے نتیجہ یہ معلوم ہوا کہ جب کوئی آدمی شریعتِ محمدی  
 کے احکام پر عمل کرنے کی سعی کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے۔ اور اس کی  
 عزت پر موقعہ پر قائم رکھتا ہے۔ اب آج کل کی عورتوں کا یہ کہنا کہ ”جی ہم بازار میں سودا  
 خریدنے اس لئے جاتی ہیں کہ مردوں کا نول پر یا اور کسی جگہ کاروبار میں مصروف ہوتے ہیں  
 تو سودا سلف کون لا کر دے“ صرف بازار میں گھومنے پھرنے کا ایک بہانہ ہے ورنہ ہر  
 کام کے لئے اللہ سبب بنا دیتا ہے۔ بشرطیکہ عمل اور عقیدہ پختہ ہو۔ آخر وہ عورتیں بھی  
 تو گزارا کر رہی ہیں۔ جو ہمہ وقت پردہ نشین رہتی ہیں۔ ہاں تو راستے میں پانی کا ایک نالہ  
 آیا۔ حضرت گھوڑی کو بانگے لگے۔ مگر وہ آگے جانے کے لئے ڈرتی، چبھتی اور واپس پیچھے  
 کو لوٹتی تھی۔ آپ نے اسے ڈرایا دھمکایا اور مارا مگر وہ آگے جانے کا نام نہیں لیتی تھی۔  
 آخر آپ گھوڑی کے آگے ہو کر اس کو کھینچنے لگے۔ تو جنات نے ایک تہقہہ لگایا۔ حضرت  
 نے فرمایا۔ ”خبیثو“ تم سو بکتی تکلیف پہنچانی۔ کہنے لگے ”جی ہم نے اس لئے ایسا کیا کہ دیکھیں  
 حضرت کیا کرتے ہیں“

جنات کے تابع ہو جانے کے بعد بھی خطرہ رہتا ہے۔ ایک دفعہ حضرت موصون  
 اپنی جامع مسجد کے گوشے میں سو رہے تھے (مسئلہ) دلیسے تو مسجد میں سونا کھانا۔ پینا  
 منع ہے۔ لیکن اگر اعتکاف مستحب کی نیت کر لے پھر چاہے ۵ منٹ ہی مسجد میں ٹھہرے  
 تو اب کھانا۔ پینا۔ سونا مسجد میں جائز ہو جائے گا۔

ہاں تو حضرت آرام کر رہے تھے اور چند جنات نے مل کر مسجد کا بہت بڑا شہتیر  
 اٹھا کر معاذ اللہ آپ کا سراقدس شہتیر اور ستون کے درمیان رکھنا چاہتے تھے۔ ان کی  
 بات سن کر آپ جاگ اٹھے اور بڑے رعب کے ساتھ ان سے فرمایا یہاں کیا کر رہے  
 ہو۔ وہ ہاتھ جوڑ کر عرض کرنے لگے۔ جی حضرت بس یونہی دل لگی کر رہے تھے۔ آپ  
 نے فرمایا جاؤ یہاں سے چلے جاؤ۔ چنانچہ وہ چلے گئے۔

حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت موصون ماہر علیات  
 اور بڑے بڑے گشتہ جات کے بنانے کے بھی ماہر تھے۔

## فقیرہ اعظم مناظر اسلام حضرت موصون کے مناظرے

حضرت موصون ایک بلند پایہ عامل اور متقی اور پرمیزگار ہونے کے ساتھ ساتھ ایک  
 بلند پایہ مناظر بھی تھے۔ اپنی بات کو دوسروں سے منوانا آپ کے لئے ایک معمولی بات تھی  
 راا تربیلہ ضلع ہزارہ کے موضع لقمانیاں میں کچھ لوگوں نے بربڑ سڑک ایک  
 مسجد بنائی (اب بھی وہ مسجد موجود ہے) مسجد مذکور کی تعمیر کے بعض لوگ مخالف تھے۔ وہ  
 لوگ موضع کوٹ نجیب اللہ سے مولوی منہاج الدین صاحب کو اپنے ہاں لے گئے۔ اور  
 غالباً مولوی سکندر علی صاحب موضع شاہ محمد والے بھی ان کے ہمراہ تھے مولوی منہاج  
 صاحب نے وہاں پہنچ کر بلند بانگ دعاوی کرنا شروع کئے کہنے لگے منہاج الدین  
 یہاں آ بیٹھا ہے۔ اب کون ہے جو سامنے آئے۔ فریق اول جو مسجد کی تعمیر کے حامی تھے  
 مجبوراً حضرت فقیرہ اعظم، مناظر اسلام کے پاس موضع کھلاہٹ پہنچے۔ اور حضرت موصون  
 سے فریاد کی ہوئے۔ ان لوگوں کے کہنے پر پھر موضع لقمانیاں، تربیلا میں ان کے ساتھ

میں تشریف لے گئے۔ دیکھا کہ مولوی منہاج الدین صاحب حج اپنے ہمراہیوں کے مسجد  
 کور کے اندر جوتوں سمیت بیٹھے۔ لشیوار تھوک رہے ہیں۔ حضرت فقیہہ اعظم  
 مناظر اسلام کے پہنچنے پر مولوی منہاج الدین صاحب سے مناظرہ شروع ہوا۔ مولوی  
 منہاج الدین صاحب نے کہا کہ یہاں کے ان مسلمانوں نے جو یہ مسجد بتائی ہے یہ مسجد  
 هزار ہے۔ اور اس کی تعمیر سے ان کی نیت فساد و تفرقہ کما ہے۔ مولوی صاحب کی  
 تقریر کے بعد مناظر اسلام نے فرمایا کہ مولوی صاحب جب آپ خود ان لوگوں کو مسلمان  
 کہہ رہے ہو۔ جنہوں نے یہ مسجد تعمیر کی۔ تو پھر یہ هزار کیسے ہو سکتی ہے۔ کیونکہ ایک  
 مسلمان کی تعمیر کردہ مسجد تو هزار نہیں ہو سکتی۔ اور قرآن کریم نے جن لوگوں کی تعمیر  
 کو مسجد قرار کا نام دیا ہے۔ وہ تو کافر تھے۔ آیات کے شان نزول۔ مفسرین کرام  
 کی تصریح اور خود قرآن حکیم کے اپنے الفاظ و کلمات سے بھی معلوم ہوا ہے۔  
 اور جب آپ نے اس مسجد کے تعمیر کرنے والوں کو مسلمان کہہ دیا ہے۔ تو پھر آپ نے  
 اس مسجد کے ہزار نہ ہونے کا خود ہی اعتراف کر لیا ہے۔ اس پر مولوی منہاج الدین صاحب  
 بیجا منطقی اور متکلم شخص بالکل خاموش ہو گیا۔ لوگوں نے خوشی منائی اور نعرے بلند  
 ہوئے۔ اس سے قبل جب حضرت مناظر اسلام۔ اس مسجد میں داخل ہوئے تو آپ اپنے جوتے  
 تار کر مسجد کے شایان شان ادب کے ساتھ مسجد میں داخل ہوئے تھے۔ جس پر مولوی  
 منہاج الدین صاحب اور ان کے ساتھی ہنسنے لگے تھے۔ کیونکہ وہ جوتوں سمیت مسجد میں  
 بیٹھے ہوئے تھے۔ بالآخر مولوی منہاج الدین صاحب نے مناظر اسلام فقیہہ اعظم کا موقف  
 تسلیم کر لیا۔ اور مسجد سے اپنا تھوک اٹھوانے کو کہا۔ اور یوں حضرت کو نمایاں کامیابی حاصل  
 ہوئی۔ اس واقعہ سے حضرت کے حسن تدبیر۔ شان فقارت۔ قرآن فہمی اور بلند پایہ مناظر  
 کوئی کا ثبوت ملتا ہے۔ بلکہ سچ پوچھیے تو یہ حضرت کی کرامت تھی۔ کہ اتنے بڑے منطقی  
 کو چند منٹوں میں قائل کر لیا۔ مولوی منہاج الدین صاحب بڑے منطقی اور مناظر عالم تھے  
 جو کہ مولانا حافظ دراز صاحب پشاور کی فحشی قاضی مبارک سے (جو کہ بہت بڑے منطقی  
 اور مشہور عالم دین تھے) مناظرہ کرنے پشاور گئے تھے۔ مگر حضرت فقیہہ اعظم کے سامنے

انہیں (مولوی منہاج الدین صاحب کو) بھی خاموش ہونا پڑا۔

قاضی میر عالم صاحب آٹ قاضیاں سخت قسم کے غیر مقلد  
**دوسرا مناظرہ** تھے۔ اور کئی مناظروں میں حضرت فقیہہ اعظم سے ہار چکے

تھے۔ بالآخر انہوں نے سید محمود شاہ صاحب آٹ ڈھینڈہ سے التجا کی اور حضرت مناظر  
 اسلام کو مناظرہ کی دعوت اور اطلاع دے بغیر اچانک سید محمود شاہ صاحب موصوف  
 کو موضع کھلابٹ لے آئے۔ مغرب کے بعد ایک آدمی نے آکر اطلاع دی کہ سید محمود شاہ  
 صاحب آپ سے ملنے آرہے ہیں۔ اس وقت اتفاق سے حضرت فقیہہ اعظم اندھیرے  
 میں بیٹھے تھے۔ اُس آدمی نے کہا کہ حضرت چراغ جلا لو کیونکہ جہان آرہے ہیں۔ فرمایا  
 جب میں خود اندھیرے میں بیٹھا ہوں تو میرے جہان بھی اندھیرے میں بیٹھ جائیں  
 گے۔ چنانچہ سید محمود شاہ صاحب قاضی میر عالم صاحب کے ہمراہ آپہنچے اور بیٹھتے ہی  
 مناظرہ شروع ہو گیا۔ اُس مناظرہ کی پوری روئیداد تو معلوم نہیں ہو سکی۔ البتہ اتنا  
 معلوم ہے۔ کہ یہ مناظرہ مسئلہ حجب پر ہوا تھا۔ جس میں حضرت مناظر اسلام کو نمایاں کامیابی  
 حاصل ہوئی تھی۔ اور سید محمود شاہ صاحب کو ایسی شکست ہوئی۔ کہ وہ کہنے لگے کہ مجھے  
 کیا معلوم تھا کہ اتنے بڑے عالم ہیں ورنہ میں مناظرہ کرنے نہ آتا۔ قاضی میر عالم نے مجھ  
 سے غلط بیانی کر کے مجھے رُسوا کیا ہے۔ یاد رہے کہ یہ حضرت سید محمود شاہ صاحب  
 مرحوم آٹ ڈھینڈہ بہت خوش الحان اور موثر ترین واعظ اور صاحب کشف اور بزرگ  
 عالم تھے۔ اور خطیب پنجاب تھے۔ انگریزان کی قدر کرتے تھے اور پالکی میں ڈال کر  
 نوکر دوں سے ان کی پالکی اٹھواتے تھے محض ان کی خوش آوازی کی بنا پر انگریزوں نے  
 ان کو کئی مربعے منیع لائل پور میں جاگیر دی تھی۔ اور بعد میں ان کے صاحبزادے سید  
 احمد شاہ صاحب کہ وہ بھی اپنے والد کی طرح بہت خوش آواز اور موثر واعظ تھے  
 کو درتہ میں ملے۔ اور پھر آج کل بڑے شاہ صاحب کے پوتے سید انور شاہ صاحب  
 کے حصہ میں آئے۔ سید انور شاہ صاحب عرصہ سے ان مربعوں میں رہ رہے ہیں۔ سنا ہے  
 کہ یہ شاہ صاحب بھی اچھے خوش الحان اور ایک اچھے واعظ ہیں۔ اور سید محمود شاہ صاحب

کو تو فی الواقع لحن داؤدی سے دافر حضرت ملا تھا۔ سید محمود شاہ صاحب آن ڈھینڈہ کی بات چھڑ گئی ہے۔ اور میرا اصلی مدعا بھی جہاں تک ممکن ہو اللہ والوں کی باتیں جمع کرنا ہے نہ صرف اپنے خاندانی بزرگوں کی۔ اس لئے دو ایک باتیں شاہ صاحب کی مزید پڑھتے چلیے۔

ایک مرتبہ بیل ہزارہ قاضی کچی خاں صاحب نے بتایا تھا۔ کہ سید محمود شاہ صاحب آن ڈھینڈہ جویلیاں کے علاقہ میں وعظ کی عرض سے دعوت پر تشریف لے گئے۔ عشاء کے وقت قضاے حاجت کے لئے بتی سے باہر نکلے۔ چند آدمی بھی ان کے ساتھ گئے باہر جا کر ان سے فرمایا کہ تم لوگ یہیں ٹھہرو۔ میں فارغ ہو کر آتا ہوں۔ اور آگے تشریف لے گئے۔ سٹورڈی دیر بعد ان آدمیوں نے سنا کہ حضرت شاہ صاحب کسی سے باتیں کر رہے ہیں۔ حیران ہوئے کہ یہاں اس اندھیرے میں کون ہے۔ پھر جب شاہ صاحب واپس آئے تو ان سے باہر پوچھا گیا کہ آپ کس سے باتیں کر رہے تھے۔ پہلے تو آپ نے بتانے سے احتراز ہی کیا۔ مگر اصرار کیا گیا تو بتایا۔ کہ یہاں حضرت خضر علیہ السلام سے باتیں ہو رہی تھیں۔

اس واقعہ سے جہاں حضرت شاہ صاحب موصوف کے مقام کا پتہ چلا وہاں یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت خضر علیہ السلام اس دنیا میں زندہ موجود ہیں۔ فقیر نے اس مسئلہ کو اپنی کتاب ”سعی محمود“ میں ذرا تشریح سے لکھا ہے۔ وہاں دیکھ لیا جائے۔ دوسری بات شاہ صاحب موصوف سے متعلق سرائے نعمت خان والے بزرگ شاہ صاحب جو موضع کھلاہٹ میں ہماری طرف سے بطور ناٹب امام مقرر ہوئے تھے (کتابائی تھی۔ جس سے سید محمود شاہ صاحب کا حین تدبیر معلوم ہوتا ہے۔ کہ حضرت سید محمود شاہ صاحب آن ڈھینڈہ پشاور والوں کی دعوت پر بغرض وعظ پشاور تشریف لے گئے۔ وہاں جب وعظ کرنے سبج پر کھڑے ہوئے تو کسی نے کہہ دیا کہ تم وہاں ہی تمہارا وعظ ہم نہیں سنا چاہتے۔ اب اس موقع پر آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے۔ کہ یہ غلط ہے میں کب وہاں ہی ہوں۔ مگر آپ نے جو جواب دیا وہ آپ کے تدبیر کا آئینہ دار ہے



اور وہ یہ کہ فرمایا میں نے وہاں بیت سے تو یہ کر لی ہے۔ بس سب خاموش ہو گئے۔  
شاہ صاحب نے مجھ کے مسئلہ پر عربی کتاب لکھی ہے اور اپنے عقائد بھی اہل سنت  
و جماعت کے موافق رسالہ محمودیہ میں لکھے ہیں۔ یہ دونوں کتابیں مطبوعہ ہیں۔ اور  
شاہ صاحب سرانے نعمت خان والوں (جو کھلا بٹ کے بعد موضع کانڈل میں امام مقرر  
ہوئے تھے) کی امانت میرے پاس موجود ہیں۔ یہ ان کو واپس کرنی ہیں۔ اس مجموعہ  
میں ایک رسالہ اردو میں کسی اور مصنف کاشیم کی تردید میں بھی ہے۔ سید محمود شاہ  
سے مستحق ثانی الذکر بات کو جناب قاضی شمس الدین صاحب آن درویش نے بھی مجھ  
سے بیان کیا تھا۔

ہاں تو حضرت دادا جی فقیہ اعظم، مناظر اسلام، حکیم الامت مولانا محمد مظہر جمیل  
صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے طالب علمی کے زمانہ میں آوان شریف منہج گجرات میں حضرت  
قاضی سلطان محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھی پڑھا تھا۔

نظر سبجانی، محبوب ربانی، سالار ارباب مجاہدہ، سردار اصحاب مشاہدہ  
قطب تفرید، لوائے توحید، جامع منقول و معقول۔ غوثِ زمان،  
سلطان آوان حضرت قاضی صاحب آوان شریف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ  
کا ذکر خیر

مغربی پاکستان کے ضلع گجرات میں جموں کی سرحد پر ایک موضع آوان شریف آباد  
ہے۔ پہلے یہ موضع محمد پور آوان کے نام سے موسوم تھا۔ لیکن کثرتِ استعمال کے باعث  
محمد پور کا لفظ متروک ہو گیا۔ بعد میں ایک متصل گاؤں "آہی" کے قرب کی وجہ سے  
"آہی آوان" کے نام سے معروف ہوا۔ لیکن حضرت صاحب کی مقدس شخصیت کی وجہ  
سے جو شرف حاصل ہو گیا۔ تو پبلک کی زبان اور ڈاک خانہ کی پھر پر بھی "آوان شریف"

نام ہے۔ یہ گجرات سے بائیس میل کے فاصلہ پر ہے۔ اور راہ میں دو برساتی ندیاں  
 پڑتی ہیں۔ جو بارش کے دنوں میں بالخصوص ماہ سادان میں راستہ روک دیتی ہیں۔  
 موسم برسات کے سوا گجرات آدان شریف تک صبح سے شام تک تھوڑے تھوڑے  
 وقفہ کے بعد بس چلتی رہتی ہیں۔ پہلے تو صرف عرس کے دنوں میں بس چلا کرتی تھیں  
 مگر اب ہر وقت چلتی رہتی ہیں۔ مؤلف کتاب کے دیکھتے دیکھتے آمد و رفت میں  
 بڑی آسانی ہو گئی ہے۔ اس گاؤں کے اکثر باشندے تو ذات کے اعوان ہیں۔ مگر  
 عرصہ دراز سے کھوکھر گوت کے راجپوتوں کا ایک خاندان بھی سکونت پذیر تھا۔  
 جس کے اکثر افراد، عالم، حافظ اور صالح تھے۔ مؤلف کتاب کے خاندان کے  
 پیر طریقت قاضی سلطان محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ اسی خاندان کے چشم و چراغ تھے  
 ان کا معاش زمینداری تھا۔

## ولادت، تربیت و تعلیم

حرمِ قدس سے اس جہانِ آب و گل میں حضرت صاحب کی تشریف آوری کی  
 نشان تو دیکھو۔ کہ والدہ ماجدہ ابھی امید سے ہی تھیں۔ کہ ایک رات نور کے تڑکے  
 کیا خواب دیکھتی ہیں۔ کہ ان کے گھر کی طرف سید طاٹھہ حضرت جنید بغدادی کی سواری  
 آرہی ہے۔ اس بشارت کی تعبیر میں بیساکھ (مئی) کا مہینہ تھا اور ۱۲۵۶ھ ختم ہو  
 رہا تھا۔ حضرت غلام غوث رحمۃ اللہ علیہ حضرت صاحب آدان شریف کے والد ماجد  
 کا عنوان شباب تھا۔ کہ آپ کے مشکوٰۃ معلیٰ میں فرزند ارجمند کے تولد ہونے کی خبر دادا

اے جنید بغدادی حضرت سرخ سقلی کے مرید اور حضرت ابو بکر شبلی کے پیر تھے۔ سید الطائفہ آپ  
 کا لقب ہے۔ علوم ظاہر و باطن میں کامل تھے۔ اصول و فروع اور معاملات میں مہتمم اور امام تھے۔ تمام  
 اہل طریقت آپ کی امامت پر متفق ہیں۔ آپ کے اقوال مستند اور کلام نہایت عالی ہے۔ اہل تصوف میں  
 آپ امام سید الطائفہ کہلاتے ہیں۔ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔

نے سنی۔ حضرت غلام مصطفیٰ صاحب حضرت قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بچہ حقیقی نے آپ کا نام سلطان محمود رکھا۔ کیسے معلوم تھا کہ یہ نومولود ایک روز عالم ولایت کا سلطان اور سومات ماسوئی کے لئے محمود غزنوی ثابت ہوگا۔

ابھی آپ کی عمر تین چار سال کی ہوگی کہ دادا نے اس جہان فانی سے رحلت فرمائی۔ باپ کی نظر اپنے فرزند کی تعلیم و تربیت کی طرف بہت تھی۔ آپ نے نسخ و نستعلیق دونوں خطوط کی مشق جناب والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کی زیر نگرانی کی۔ مولف کتاب ابو الفتح غلام محمود کی نظر سے حضرت کی قلمی تحریریں (مثلاً شرح چغینی علم ہیئت و ریاضی کی کتاب پر آپ کا قلمی حاشیہ) گزری ہیں۔ حرفوں میں ایسی آب نظر آتی ہے۔ کہ گویا موتیوں کی لڑیاں پرودی گئی ہیں۔ خود حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو تحصیل علم کی طرف اس قدر شغف تھا کہ سب طرف سے بے تعلق ہو کر اسی ایک جانب جھک گئے تھے۔ گو شادی آدان صبا میں ہو گئی تھی۔ مگر تحصیل علم کا اس پر کوئی اثر نہیں پڑا۔ گو آپ کی تعلیم گھر میں شروع ہوئی تھی۔ مگر تکمیل تعلیم کے لئے گھر سے باہر جانا پڑا۔ چنانچہ حاجیوالا تحصیل گجرات میں مفتی شیخ احمد صاحب سے۔ بلکہ تحصیل کھاریار میں مولوی صدر الدین صاحب سے اور چنن گکھر ضلع گجرات کا سفر کرنا پڑا۔ چنن گکھر میں ایک زبردست عالم مولوی ابراہیم صاحب رہتے تھے۔ پھر موضع کھانی تحصیل جہلم میں مولوی نورا احمد صاحب سے پڑھا۔ اس کے بعد دیگر مقامات پر مثلاً موضع کد لیتی۔ چکوال۔ تھو احرم خان، چکی۔ غور غشی۔ دشمن آباد ضلع کبیل پور اور پشاور وغیرہ گئے۔ اور مختلف ماہرین علوم سے اکتساب علم کیا۔ ۲۵ چھبیس سال کی عمر میں آپ فارغ التحصیل ہو چکے تھے۔ آپ نے پورے انہماک سے علم حاصل کیا۔ جوشی ایک دفعہ پڑھتے حافظہ میں گھر کر لیتی تھی۔

حکیم احمد دین صاحب سکھ برنالہ فرماتے ہیں۔ کہ علم کی دھن میں حضور کو تین تین چار چار دن بے کھاٹے پیئے گزر جاتے۔ حضرت صاحب فرماتے کہ موضع اخلاص کھبی والا میں ایک زبردست عالم تھے۔ میں نے ان سے ہدایہ کا ربیع سوم پڑھا۔ اور اس سے نوکوس کے فاصلہ پر میر وال تھا وہاں ایک افغانی عالم علم ہندسہ و ہیئت کے ماہر تھے۔ ان

سے میں نے علم ہیئت کی مشہور کتاب شرح چغینی پڑھی۔ اور مولوی عبدالرحمان صاحب  
پنڈی سرہاں ضلع کیمبل پور فرماتے ہیں کہ آپ نے فتح جنگ اور خلاص میں بھی پڑھا  
اور میر وال سے آپ علاقہ چھچھ اور موضع غور غشی تشرین لے گئے۔ وہاں کچھ تحصیل  
علم کر کے افغانی عالم سے میرزا ہد پڑھی۔ اور رسالہ قطبیہ کے اسباق میں دوسرے  
طلبہ کے ساتھ شرکت کی۔ پھر موضع پیر زئی میں مولانا دو آبی سے چند ماہ تحریر اعلیٰ  
اور میرزا ہد اور عامہ پڑھتے رہے۔ اور صدیہ وقاضی مبارک کے مشکل مقامات  
حل کئے۔ پھر حضرت نے امان زئی میں واقع اشغندر (ہشتنگر) میں مقیم مولانا صاحب  
بہو تمام علوم میں بحر مواج اور تمام فنون میں ایک دریائے ذخار تھے (جیسا دی شریف  
کاسبق شروع کیا۔ حکیم احمد دین صاحب سکنہ برنالہ فرماتے ہیں کہ موضع کہ لہتی والے  
واجب الاحترام استاذ نے آپ کی علمی بصیرت، وقت نظر اور اصابت رائے کو دیکھ

لے چھچھ علاقہ کا نام ہے یہ علاقہ خضر و کیمبل پور کے اوزار میں ہے۔ حضور سے سات آٹھ میل جانب مغرب  
اور اتنا ہی جانب مشرق اس کا طول ہے اور حضور سے شمال اور جنوب کی طرف چار چار پانچ پانچ میل اس کا عرض  
ہے۔ اس میں ۸۴ دیہات شامل ہیں۔ حضور قریباً ان کے مرکز میں واقع ہے۔ غور غشی جو حضور سے  
قریباً چھوٹیل کے فاصلہ پر واقع ہے۔ میں مدت مدید سے دورہ حدیث کا حجر چلا آتا ہے۔ مولانا  
نصیر الدین صاحب سے پہلے حضرت مولانا قطب الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ خود دورہ پڑھایا کرتے  
خیال کیا جاتا ہے کہ شہاب الدین غوری کے عہد میں یہ درس (درس گاہ) قائم ہوا۔ افغانستان۔  
یاغستان اور پنجاب کے لوگ یہاں سے استفادہ کرتے رہے ہیں۔ اس جگہ کے فارغ التحصیل طالب علم  
منصب دفترا کے قابل سمجھے جاتے تھے۔ پٹانوں میں کاکڑ فاندان کا ایک ہی گھرانہ اس درس کا  
متولی چلا آ رہا ہے۔ مولانا قطب الدین صاحب کا انتقال تو پہلے غالباً ۱۹۵۳ء میں۔ اور مولانا  
نصیر الدین کا انتقال ابھی ابھی ہوا ہے۔ (۱۹۴۹ء میں)

حضرت صاحب آدان شریف کے وقت ان سے پہلے کوئی اور صاحب استاد ہوں گے

قاضی کے معزز خطاب سے مخاطب کیا۔ ان کی تقلید میں دوسروں نے بھی آپ کو قاضی کہنا شروع کیا۔ لہذا آپ اسی لقب سے مشہور ہو گئے۔ چند سال بعد روحانی کمالات بھی حاصل ہو گئے۔ اور ان کی دعاؤں سے لوگوں کو دینی اور دنیاوی مرادیں ملنی لگیں۔ تو لوگوں نے غریب نواز کا لقب بھی بڑھا دیا۔

حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو تحصیل علم کے عظیم مقصد کی تکمیل کے لئے اپنے من میں صاحب کمال اساتذہ کی تلاش کرنی پڑی۔ اس ہی میں تیرہ چودہ سال کا عرصہ صرف ہوا۔ تین تین چار چار دن فاقوں میں گذر جاتے۔ پیدل چلنے سے پیروں میں چھالے پڑ جاتے تھے۔ فاقہ کشی سے بچنے کے لئے کبھی کوئی شے لکھ کر فروخت کرتے یا شب کے دنت حسب ضرورت گدیہ کر لیتے۔ اور اپنے ہمراہیوں سے مل کر کھاتے۔

حضرت غریب نواز علیہ الرحمۃ کا علم اس قدر وافر تھا۔ کہ آپ

**تبحر علمی**

فضلائے روزگار میں ایک مسلم فرد تھے۔ آپ نے فلسفہ، منطق،

ریاضی اور ہیئت کی درسی کتابوں پر حکیمانہ حواشی تحریر فرمائے تھے۔ جن میں علم ہیئت میں شرح چغینی کا حاشیہ حضور کے دستِ اقدس کا تحریر کردہ دیکھنے کا اتفاق آواں شریف کے کتب خانہ میں مؤلف کتاب ابو الفتح غلام محمود کو بھی ہوا ہے۔ حضور غریب نواز گو حنفی المذہب اور مقلد تھے۔ مگر آپ محققین کے درجہ پر فائز اور مؤلف ناچیز کے خیال میں آپ بیک وقت مجدد اور مجتہد بھی تھے۔ کیونکہ ہر عوثِ وقت مجتہد ہوتا ہے۔ اور حضور غریب نواز تو ظاہر و باطن میں یکتائے روزگار تھے۔ اور حسب تصریح علامہ بحر العلوم لکھنوی "ارکانِ اربعہ" میں اجتہاد کا دروازہ ماٹہ رابعہ پر بند نہیں ہوا۔ بلکہ ہر زمانہ میں مجتہد ہوتے ہیں۔ اسی نظریہ کو مولانا عبدالحی لکھنوی نے الفاظہ البکیرہ میں قائم رکھا ہے۔ اور فقیر مؤلف کی نظر میں تو ہر عوثِ وقت یا قطب مجتہد ہونے ہیں۔ بالخصوص مخصوص اعوات و اقطاب۔

حضور غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا کتب خانہ لاجواب اور بے نظیر تھا۔ جس میں مختلف علوم کی نادر کتب قلمی اور غیر مطبوعہ موجود تھیں۔ حکیم احمد دین صاحب سکنت برنامہ

فرماتے تھے کہ حضور کو ہر فن کی ایک کتاب کا مستن زبانی یاد تھا۔ اور آپ ان متنوں کو وقتاً فوقتاً زبانی دہراتے رہتے تھے۔ کہ بھول نہ جائیں۔ مثلاً فقہ کی کتاب میں "کنز الدقائق" منطق کی "سلم العلوم" نحو کی "کافیہ" اور صرف کی "شافیہ" وغیرہ وغیرہ۔ دیگر کتب بھی تعلیم و تعلم کی مزاوت و مداومت سے قریباً ازبر ہو گئی تھیں۔ آپ کے پاس مختلف علوم کے منتہی لوگ آتے اور اپنے شکوک رفع کرتے تھے۔ اس میں مسلم و غیر مسلم کی کوئی تخصیص نہ تھی۔ دیوان اہانت رام ریاست جموں و کشمیر نے شمس باز غفر با صدرا کے مشکل مقامات آپ سے حل کرائے۔ حکیم غلام مصطفیٰ صاحب جو گو لیکلی ضلع گجرات والے (جو بہت بڑے طبیب اور عالم تھے۔ اور آپ نے حضور عزیز نواز کا علاج بھی وقتاً فوقتاً کیا ہے۔) نے شرح چھیننی کا ایک نہایت ہی مشکل مقام حضرت صاحب سے حل کرایا

**تحریر علمی کا اعتراف** | علمائے عصر سب آپ کے بحر علمی کے معترف تھے اور ان کی نظر میں آپ کا بڑا مرتبہ تھا۔ جو لوگ مشرب

میں آپ سے اختلاف رکھتے تھے وہ بھی آپ کو ایک عالم باعمل اور رہنمائے خلایق سمجھتے تھے۔ مولوی محمد حسین صاحب بنا لوی پیشوائے اہل حدیث نے آپ کی عدم موجودگی میں آوان شریف کے اندر صرف آپ کی قیام گاہ دیکھ کر بے ساختہ کہا کہ جس شخص کے بیٹھنے کی یہ جگہ ہے اس کا نفس یقیناً بے شر ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے آپ کو ایک بخود خط بھیجا تھا۔ جس میں اعتراف کیا تھا۔ کہ حق تعالیٰ کے فضل سے آپ نور ہدایت پر ہی۔ اور خدائے تعالیٰ نے آپ کو اپنی مخلوق کے ایک اچھے حصے کا مرجع و ماویٰ بنا دیا ہے۔ مولوی عبداللہ صاحب ساکن عمر پک تحصیل کھاریاں جو خود بھی متعدد علوم میں مہارت تامہ رکھتے تھے۔ ضلع گجرات میں قاضی بھی تھے۔ فرمایا کرتے تھے۔ کہ اگر حضرت قاضی صاحب قدس سرہ پوری توجہ سے علوم باطنی کی طرف متوجہ نہ ہو جاتے تو ہمیں کوئی بھی نہ پوچھتا۔ اور سب لوگ انہی کی طرف رجوع کرتے یعنی ان کے مقابلے میں ہماری کوئی اہمیت نہ ہوتی۔

**علمی خدمات** | آپ نے فارغ التحصیل ہوتے ہی تعلیم و تدریس کا کام شروع

کر دیا۔ افسوس اس قسم کے تعلیمی ادارے اب ختم ہوتے جاتے ہیں۔ لیکن حضرت قدس سرہ کے عہد مبارک میں قائم تھے۔ اور جہاں کہیں کوئی صاحب علم اور صاحب ذوق آدمی ہوتا۔ اس کی ذات ہی اس ادارے کی ذمہ دار ہوتی۔ مستطیع ارباب دولت اور اہل علاقہ طالب علموں کی امداد کر دیتے تھے۔ اور یہ کام مختصر پیمانے پر چلتا رہتا۔ یوں تو سر کام آپ پورے انہماک سے کرتے تھے۔ لیکن تعلیم و تدریس کے وقت ہمہ تن انہماک ہو جاتے تھے۔ اور نہایت بلند حوصلگی اور تحمل سے سبق کو طالب علم کے ذہن میں بٹھانے کی کوشش فرماتے تھے۔ اپنی تقریر کو معقولات کا رنگ دے کر مدلل کرتے اور نہایت سہل الفاظ اور سہل تر مثالوں سے کام لے کر سمجھاتے۔ اگر کوئی طالب علم نہ سمجھتا۔ تو کسی قسم کی خفگی کا اظہار کئے بغیر سبق کو دو بارہ پڑھا دیتے اور ایسا آسان بنا دیتے کہ وہ مطلب سمجھ جاتا۔ اور آپ کی تقریر اس کے ذہن میں بیٹھ جاتی آپ کا شمار تھا۔ کہ جو سبق کسی طالب علم کو پڑھانا ہوتا۔ اس کا پہلے خود مطالعہ فرما لیتے خواہ وہ کتاب ابتدائی ہوتی اور سبق کسی مبتدی کا ہوتا۔ طریقہ تعلیم انفرادی تھا۔ جب کبھی دو تین طلبہ بدرس ہوتے تو جماعتی طریقہ تعلیم سے کام لیتے تھے۔ بالعموم یہ دستور تھا کہ طالب علم کتاب کی عبارت پڑھتا آپ بشرط ضرورت اس کی اصلاح کرتے۔ پھر تفسیر و تشریح فرماتے تھے۔ بعد ازاں طلباء سے پوچھتے کہ اگر کوئی اشکال ہے تو پیش کرو۔ جب طالب علم اظہار اطمینان کرتا۔ تو آپ اسے سبق یاد کرنے کو کہتے۔ پھر دوسرے کی باری آجاتی۔ تعلیم بلا معاوضہ دیتے تھے۔ بلکہ کسی سے زبانی شکر یہ کی توقع بھی نہ رکھتے تھے۔ طالب علموں پر بالخصوص غریب طالب علموں پر نہایت مہربانی فرماتے اور انہیں اپنے پاس سے کتب خرید دیتے تھے۔ جو طلبہ دور دراز فاصلے سے آتے ان کے کھانے اور رہائش کا اہتمام بھی فرماتے۔ آدان شریف میں یا اس کے نواحی دیہات میں جو لوگ مستطیع تھے۔ انہیں آپ نے کہہ رکھا تھا۔ کہ ہر روز صبح یا شام کے وقت طالب علموں کو کم سے کم ایک روٹی ضرور دیا کریں۔ طالب علم وقت پر روٹیاں اکٹھی کر لیتے تھے۔ اس طرح ان کی گزران ہوتی رہتی تھی۔ آپ کے طالب علموں کو

عام طور پر اہل علاقہ قاضی صاحب کے درویش کہا کرتے تھے۔ کبھی کبھی ان درویشوں میں کچھ درویش دورے میں بھی ہمراہ رہتے۔ اور فرصت کے اوقات میں اپنا سبق پڑھ لیتے تھے۔

باہر سے اگر کوئی ارادتمند کوئی تحفہ یا ہدیہ بھیجتا تو اس میں بھی درویشوں کو اپنا حصہ مل جاتا تھا۔ علی الخصوص کھانے کی چیزوں میں تو ضرور حصہ دار بن جاتے تھے یہ سب آپ کی کریم النفسی اور طلبہ سے محبت کی بنا پر ہوتا تھا۔ آپ لوگوں کو علم سیکھنے کی ترغیب دیتے رہتے خاص کر علم دین کی طرف رغبت دلاتے۔ اور اسے دارین میں اپنی صلاح کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ آپ درس نظامی کا مروج نصاب عربی اور فارسی دونوں پڑھاتے تھے۔ جن طلبہ کا میلان تصوف کی طرف ہوتا انہیں تصوف کی کتب بھی پڑھا دیتے تھے۔ کسی فن کی تخصیص نہیں تھی۔ فقہ، حدیث، تفسیر، ادب، ہیئت، منطق، فلسفہ ریاضی اور تصوف، الغرض ہر فن کی کتب پڑھاتے تھے۔ منہی تو بالآخر آپ سے ہی استفادہ کرتے۔ مگر مبتدیوں کو دوسرے آدمی بھی سبق پڑھا دیا کرتے تھے۔ تعلیم و تدریس کا یہ دائرہ بلا امتیاز مذہب و ملت تھا۔ مسلم اور غیر مسلم بھی کبھی بالمشافہ کبھی بذریعہ خط و کتابت اپنے علمی شکوک آپ سے رفع کراتے تھے۔

حضور غریب النواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا درس ایک **بند پایہ درس** بند پایہ علمی و معیاری درس گاہ تھی۔ حضرت والد صاحب علامہ قاضی عبدالبحان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ علم منطق کی کتاب ملا حسن سلم العلوم کی شرح جو طالب علم حضور غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے درس میں پڑھ رہا تھا وہ آپ کی درس گاہ میں ایک ادنیٰ طالب علم (جسے ہزارہ کی زبان میں چنٹرا کہتے ہیں) تصور ہوتا تھا۔ اور اب تو کچھ عرصہ سے بہت کم طالب علم ملا حسن پڑھتے ہیں۔ مؤلف کتاب ابوالفتح جب ۱۹۵۳ء میں مدرسہ رحمانیہ سہری پور میں مدرس تھا۔ تو دارالعلوم دیوبند سے نصاب تعلیم منگوا یا گیا۔ وہاں کے مہتمم دارالعلوم قاری محمد طیب صاحب نے لکھا کہ کسی زمانہ میں تو دارالعلوم کے اندر منطق قاضی مبارک و محمد اللہ تک پڑھائی جاتی



اور یہ کتابیں بھی داخل درس تھیں۔ لیکن اب صرف ملا حسن تک لڑنا ہی تعلیم ہے اور علم منقطع  
ملا حسن تک پڑھ چکنے کے بعد دوسرے سال طالب علم دورہ حدیث کرتا ہے۔

اب قارئین کرام اندازہ لگائیں کہ حضور غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی درس گاہ کس  
قدر بلند پایہ درس گاہ ہوگی۔ جس میں یہی ملا حسن پڑھنے والا ہے آج کل شاید ہی کوئی پڑھتا  
ہے۔ ایک ادنیٰ طالب علم متصور ہوتا تھا۔

طالب علموں پر شفقت

حکیم احمد دین صاحب نے فرماتے ہیں کہ جب  
آپ کو درس و تدریس کی اجازت ملی تو پھر  
آپ نے طلباء کو آنے اور پڑھنے کی اجازت دی۔ بعض دفعہ سفر میں طلباء کو سہرا رکھتے  
اور راستہ چلتے سبق پڑھاتے جاتے تھے۔ پٹھان علماء کا اپنے علاقہ میں اب تک یہی  
عمل دستور ہے۔

## حلیہ، عادات، اخلاق

حلیہ مبارک :- آپ کا قد نہایت موزوں تھا۔ چھب نہایت دل آویز اور  
سراپا متناسب تھا۔ سر پر ہمیشہ بال رکھتے تھے۔ اور بیچ میں سے مانگ نکالتے تھے۔  
عمامہ باندھتے، سرمہ لگاتے، اور خوشبو کو بہت پسند کرتے تھے۔ جوانی میں رنگ  
گندم گوں تھا۔ مگر آخر عمر میں ریاضت سفر کی مشقت اور آفتاب کی غارت سے ساؤل  
ہو گیا تھا حضرت صاحب جزا وہ محبوب عالم صاحب مدظلہ فرماتے ہیں۔ کہ آپ خاصے مضبوط۔  
بازو بھرے بھرے۔ پنڈلیاں سخت اور مضبوط، سینہ چوڑا، اور جسم پر گوشت تھا۔ چلنے  
میں سبک رفتار اور تیز گام تھے۔ آنکھوں کے سامنے پنکھے سے آڑ کر لیا کرتے تھے  
ان میں اتنی جوت تھی کہ لیا یک اگر کسی پر نظر پڑ جاتی تو معلوم ہوتا کہ بجلی کو ندگئی ہے  
ان میں شرم و محبت کون کون کر بھری ہوئی تھی۔ آخر عمر میں پانی اتر آیا تھا۔ اور  
بہت حد تک بینائی کو نقصان پہنچا تھا۔ مگر اپریشن تک کی لزبت نہیں آئی۔ کیونکہ  
ڈاکٹر کی رائے اپریشن کے خلاف تھی۔ بھائی کے انتقال کے بعد دست مبارک میں

عشر ہو گیا تھا۔

## لباس

آپ کبھی سفید تہ بند باندھتے اور بدن پر ایک مٹل کا کرتہ ہوتا تھا۔ گریباں چھوٹا مگر کھلا ہوتا تھا۔ کرتا پہنتے وقت آستین کو چڑھاتا ہوتا۔ تو لوگوں کو سہا دیتے۔ اور کلاٹیوں تک کو برہنہ نہیں ہونے دیتے تھے۔ کبھی کبھی آپ نے فرغل کی طرح کا کرتا پہنا ہے۔ عمامہ پہنتے تھے جس کا شملہ چھوٹا ہوتا تھا۔ کبھی کبھی آپ کندھوں پر چادر ڈال لیا کرتے تھے۔ جھاڑوں میں ضرورت کے وقت کوئی گرم کپڑا بھی زیب تن فرما لیا کرتے تھے۔ اور ڈلائی بھی اوڑھ لیا کرتے تھے۔ کبھی کبھی سمور کی صدری بھی پہنی ہے۔ آخر عمر میں سر پر ٹوپی رکھ لیا کرتے تھے۔ اور جھاڑوں میں کنٹوپ پہن لیتے تھے۔ کبھی کبھی آپ نے سر پر سبز عمامہ بھی رکھا ہے۔ یہ آپ کو بہت بھلا معلوم ہوتا تھا۔ ایک زمانہ میں آپ نے مٹلا و نڈتہب ٹوپی بھی پہنی ہے۔ بعض ارادت مند کبھی کبھی ٹوپیاں لا کر پیش کرتے تھے۔ آپ ان کی خاطر سے پہن لیتے تھے۔ پیروں میں موضع کے رواج کے مطابق کامدار جوتا بھی پہنا ہے۔ باہر جب سفر میں نکلتے تو ایک دوپٹہ بھی ساتھ رکتا۔ جسے پگڑی کے اوپر لپیٹ لیا کرتے تھے۔ اور جب نماز کا ارادہ فرماتے تو اگر عمامہ نہ ہوتا تو اسی کو سر پر باندھ لیا کرتے تھے۔

حکیم احمد دین صاحب فرماتے ہیں۔ کہ سفر میں سفید کپڑوں کے علاوہ دوسیا ہ پھاڑیں بھی ہمراہ رکتی تھیں۔ ایک رات کے وقت تہ بند کی طرح باندھ لیتے اور دوسری کو اوڑھ لیتے تھے۔ کشمیری فز جو ایک طرح کی پشمینے کی چادر ہوتی ہے۔ آپ نے کبھی کبھی اوڑھی ہے۔ اور کشمیری جبہ بھی زیب تن فرمایا ہے۔ زری کے کام کے چنے بھی پہنے ہیں۔ جرابیں جو آپ استعمال فرماتے۔ عموماً سیاہ رنگ کی ہوتیں۔ اور دستاخے ایسے ہوتے جن میں دو انگلیاں لکھنے کے لئے آدھی کھلی رہتیں۔ غرضیکہ پہنے اور مٹل میں کسی خاص لباس کا اہتمام نہ تھا۔ ابتدائی زمانہ میں گھروں کے کاتے سونے سوت کی بنا ہوئی کھادی آپ زیادہ پسند کرتے تھے۔ اگر کوئی آدمی بڑا ہو یا چھوٹا آپ

سے ملنے آتا تو جو کپڑے بدن پر ہوتے انہی میں ملتے۔ مسواک۔ سرمہ دانی اور کنگھا سفر میں ہمیشہ ساتھ رہتا۔ شلوار آپ نے بہت کم پہنی ہے۔ اسی طرح پا جامہ ایک دفعہ ہی پہنا ہے۔ عید۔ بقر عید میں جسم اطہر پر وہی روزمرہ کا لباس ہوتا۔ اگر کوئی کپڑوں میں عطر لگا دیتا تو خوشنودی کا اظہار کرتے۔

آپ کی غذا بہت تھوڑی اور بالکل سادہ تھی۔ ترکاریوں میں آپ کو مولیٰ بہت پسند تھی۔ کبھی آپ نے باجرے کے

خوشے بھنوا کر اور دانے نکلوا کر پھانک لئے ہیں۔ ساگ مطبوع خاطر تھا۔ گھیوں کے آٹے کا پھلکا جو کم و بیش چھٹانک بھرا کا ہوتا خالی دال یا لکھن سے لگا کر کھا لیتے اور اکثر نوالہ منہ میں رکھ کر لستی کے گھونٹ سے نیچے اتار لیا کرتے تھے۔ لستی (چھا چھا) آپ کو بہت مرعوب تھی۔ گوشت بھی کھایا ہے۔ شروع زمانہ میں اس طرف بہت کم رغبت تھی۔ مگر آخر زمانہ میں کسی خاص شے کی طرف توجہ نہ رہی۔ معمولاً صحن دال کھاتے تھے جس میں مرچ نہ ہو۔ آم شاید آپ نے کبھی نہیں کھائے۔ کسی خاص وجہ سے نہیں۔ بلکہ عام پسند ماکولات و مشروبات کی طرف رغبت ہی نہ رہی تھی۔ دوروں میں دو تین تولے بھٹنے ہوئے چنے بھی کھائے ہیں۔ غلوت اور چلوں کے اوقات میں آپ ہاتھ سے سپارے یا دورد شریف لکھ کر فرخت کرتے۔ جو قیمت ملتی اس سے غلہ خرید کر دھلاتے اور سنگھاتے۔ اور جو کوئی با وضو ہوتا۔ اس سے لیسوا کر دو تین تولے کی ایک ٹیکہ بچوا کر آٹھ پہر میں ایک دفعہ تناول فرماتے۔ روزے اکثر لستی سے افطار کرتے۔ خربوزہ آپ نے کھایا ہے۔ مگر اس طرح کہ اگر کوئی خربوزہ شیریں ہوتا تو دو ایک بچائیں کھا لیتے۔ آپ فرماتے تھے کہ جب کھانے پینے کی اجازت ہوئی تو اس طرف رغبت ہی باقی نہیں رہی۔ وقت پر جو کچھ حاضر کیا جاتا اس میں سے بقدر کفایت کچھ تناول فرما لیتے تھے۔

آپ عوام میں بیٹھ کر کھانا کھانا پسند نہیں فرماتے تھے۔ مگر لوگ پیچھا نہیں چھوڑتے تھے۔ چوہدری الہ دین کہتے تھے۔ کہ میں اس کا خیال رکھتا تھا۔ کہ کھانا کھاتے

وقت کوئی آپ کے پاس نہ آئے۔ آپ یہ پسند نہیں کرتے تھے۔ کہ طرح طرح کا اور اتنا کھانا آپ کے سامنے آئے جو ضرورت سے زیادہ ہو۔ اس لئے اتنا ہی کھانا آپ کے سامنے لایا جاتا تھا جتنا آپ معمولاً تناول فرماتے تھے۔

آپ کے کھانے پینے کی ضروریات اور لباس وغیرہ کے لئے آپ کی موروثی عایدات کافی تھی۔ جس کا انتظام آپ کے بھائی کے ہاتھ میں تھا۔ آپ اس کا ذکر تک اپنی مجلس میں پسند نہیں کرتے تھے۔

## آپ کی سادگی و طبع

آپ کی طبیعت میں بہت سادگی تھی۔ اور مزاج میں بالکل تصنع نہ تھا چوہدری اندوین صاحب جو آپ کے پرانے ارادت مند تھے۔ فرماتے تھے کہ آپ میرے گاؤں کئی بار تشریف لے گئے۔ مگر ہمیشہ پیدل اور کمال سادگی سے آئے۔ ایک دفعہ مجھ سے فرمانے لگے کہ اتنی مرتبہ میں تمہارے پاس آیا ہوں تم بھی کبھی میرے پاس آؤ۔ میں نے عرض کیا بہت اچھا! حاضر ہوں گا۔ ایک عرصہ بعد مجھے آدان شریف حاضر ہونے کا موقع ملا۔ آپ نے بے حد التفات فرمائی۔ میں گھوڑے پر سوار ہو کر آیا تھا جسے سنگیوں نے پسند نہیں فرمایا تھا۔ لیکن آپ نے کچھ نہیں فرمایا تھا۔ میں اسی دن گھر واپس جانا چاہتا تھا۔ مگر آپ نے روکا اور میرے گھوڑے کے لئے دانہ چارہ کا حکم فرمایا۔ میں نے ارادہ کیا۔ کہ اب جب حاضر ہوا کروں گا تو پیدل ہی آیا کروں گا چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا۔ حتیٰ کہ میں خود آپ کے خادموں میں شامل ہو گیا اور کچھ خدمت مجھے بھی سپرد ہوئی۔ آپ کا انداز گفتگو بہت سادہ تھا۔ سامع کی قابلیت و صلاحیت کے مطابق گفتگو فرماتے اور باوجود عالم متبحر ہونے کے ثقیل اور غیر مانوس الفاظ پر گنا استعمال نہیں فرماتے تھے۔ بلکہ اگر کوئی اور آدمی آپ کی موجودگی میں عربی یا فارسی کے مشکل الفاظ استعمال کرتا تو آپ فرماتے۔ کہ تم عرب میں بیٹھے ہو یا ایران میں کہ عربی اور فارسی کے مشکل الفاظ استعمال کر رہے ہو یا پنجاب میں بیٹھے ہو۔

## تضع آپ کو پند نہ تھا

تضع آپ کو پند نہ تھا۔ ایک دفعہ آپ کے پاس چند رشتہ دار آئے۔ جو فخریہ یہ کہنے لگے کہ ہم ایسا کھاتے اور ایسا پہنتے ہیں۔ یعنی اپنی شان دکھانے لگے آپ نے فرمایا کہ میرے پاس تو یہی ملک مرچ ہے۔ جو بلا تکلف میسر آجاتا ہے اگر تمہیں امیرانہ کھانوں کا شوق ہے۔ تو آپ امیروں کے پاس جائیں۔ لوزارح آدان شریف کے ایک بڑے زمیندار اظہار دولت مندی میں سونے کے زیورات پہنا کرتے۔ حضرت علیہ الرحمۃ کو جب معلوم ہوا تو اظہار ناپسندیدگی فرمایا۔ اور صحری خدمت کی اجازت نہ ملی۔ نہ اسے حاضر ہونے کی جرات ہی ہوئی۔

## آپ رسم و عادات کے پابند نہ تھے

حضرت صاحب قدس سرہ العزیز کی نظر ظاہری رسم و عادات پر کبھی نہ تھی آپ ہر شے کے باطن کو دیکھتے تھے۔ لوزارح محشوق یار جنگ کمشنر حیدرآباد (دکن) سے ایک بار ارشاد ہوا تھا کہ ظاہر کو مت دیکھو۔ باطن کو دیکھو اس پر اعتماد کرو آپ سے مریدوں اور غیر مریدوں سب کو فیض پہنچتا تھا۔ جس میں صلاحیت اور طلب حق دیکھتے۔ کچھ اس سے دریغ نہ کرتے۔ بے طلب بھی عطا فرماتے تھے۔

آپ کی دست نظر کا یہ حال تھا۔ کہ کبھی کسی کلمہ گو اور صاحب قبلہ کو کانفرنس نہیں کہا۔ بحث مباحثہ اور مناظروں سے کوسوں دور رہتے تھے۔ شروع شروع میں احکام کے اجراء میں بہت تشدد تھا۔ حضرت امام شاہنی صاحب کا بھی حال ابتدا

حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ کا نام محمد کینتہ ابو عبد اللہ۔ پیدائش ۱۵۱ھ میں ہوئی۔ بہت بلند پایہ مجتہد تھے۔ آپ کی وفات ۲۰۵ھ میں ہوئی۔ آپ صرف علوم ظاہری (اصول و فروع منہجی) کے عالم نہ تھے۔ بلکہ علوم باطنی (اصول و احسان) میں درجہ کمال تک پہنچے ہوئے تھے۔ مسلمانان عالم کا ایک کثیر حصہ فقہی مسائل میں آپ کا مقلد ہے۔ دیکھو کشف المحجوب المصطفیٰ لیس لاہور ص ۱۹۲ حال امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ

میں بھی تھا۔ کہ اہل بصوت سے پہلے دل میں سختی رکھتے تھے۔ لیکن جب آپ حضرت  
مشہور راعی سے ملے تو ان کی صحبت کی برکت سے یہ سختی دور ہو گئی۔ اور حقیقت امر  
کی طلب پیدا ہوئی۔ اسی طرح قاضی صاحب قدس سرہ العزیز کا سن مبارک جیسا  
جیسا بڑھتا گیا یہ سختی بھی رفتہ رفتہ کم ہوتی گئی۔ اور اس کی جگہ نرمی اور رواداری  
پیدا ہو گئی۔ جو بالآخر خلق اللہ پر شفقت کی صورت میں ظاہر ہوئی۔

## لوگوں کا زیادہ آنا پسند نہ تھا

آپ تخلیہ کے وقت کسی کا آنا پسند نہیں کرتے تھے۔ ایک دفعہ چراغ گل کر کے  
لیٹے ہی تھے کہ ایک آدمی دبے پاؤں آپ کی خواب خواہ میں گھس کر بیٹھ گیا چند  
لمحے بعد آپ نے اس کا نام لے کر لپکرا، اور کہا کہ باہر چلے جاؤ۔ کیونکہ تمہاری  
موجودگی میں طبیعت میں بے آرامی اور بے چینی ہوئی ہے۔ اس آدمی نے عرض  
کی کہ میں آپ کے آرام میں مخل تو نہیں سو رہا۔ آپ نے فرمایا کہ باہر چلے بھی جاؤ  
مجھے کیوں بزار کرتے ہو۔ آخر اسے باہر نکلنا ہی پڑا۔  
راستہ چلتے وقت آپ نہیں چاہتے تھے۔ کہ لوگ آپ کو گھبریں اور کھڑے  
ہو کر باتیں کریں۔ یاد راہ چلتے باتیں کرتے جائیں۔

## دنیا داری سے بے تعلقی

ایک دفعہ ایک شادی بیاہ کے جھگڑے میں ارادت مندوں نے آپ کو  
بیچ میں ڈالنا چاہا۔ تو آپ نے فرمایا۔ تم یہاں خدا کا کام سیکھنے آئے ہو یا لوگوں  
کے شادی بیاہ کے جھگڑے چکانے۔ مجھے تم میں سے کسی کی احتیاج نہیں۔ میں  
باجرے کی روٹی اور گھاس کھاتا رہا ہوں اور چٹائی پر سویا بیوں۔ مجھے کسی کی

لے دیکھو کشف المحجوب، مطبوعہ ایشیم پریس لاہور ص ۹۲ حال امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ۔

ضرورت نہیں۔ ایسی غیر متعلقہ باتیں کرنی ہوں تو میرے پاس سے چلے جاؤ۔

آپ کی تمام عمر دنیا سے بے تعلق رہی۔ ایک بار کچھ لوگ آپ کے پاس زمیندار کی باتیں کرنے آئے تھے۔ آپ نے جھڑک دیا اور فرمایا کہ مجھے ان باتوں سے کیا تعلق ہے آپ نے کبھی کوئی دنیاوی شے طلب کی اور نہ کبھی آپ کے باطن میں خواہش دنیا کا ارادہ یا خیال آیا۔ بلکہ جس قدر دنیا پاس تھی اسے بھی ترک کر دید

## شہرت سے نفرت تھی اور بڑے لوگوں سے ملنا ناپسند تھا

شہرت مزد سے آپ کو حد درجہ کی نفرت تھی اور آپ کو بڑے لوگوں سے ملنا جلنا اور امیروں نو جوانوں کے پاس آنا جانا طبعاً ناپسند تھا۔ لیکن اگر ان سے کوئی صاحبِ خلوص ہوتا اور اللہ ملنا چاہتا تو مل لیتے تھے۔ جناب حکیم احمد دین صاحب فرماتے ہیں کہ بہاراج رنیر سنگھ والی ریاست جموں و کشمیر کو آپ سے ملنے کا بہت شوق تھا۔ اس نے کئی بار ملنا چاہا اور نیا نامے بھیجے۔ مگر آپ نے کہلا بھیجا کہ بہارے آنے سے تکلیف ہوگی۔ ایک صاحب کو جنہوں نے شاید راجہ امر سنگھ برادر بہاراج راجہ کشمیر کو آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کے لئے آمادہ کیا تھا اور آپ کو اطلاع دی تھی آپ لکھتے ہیں۔ کہ مرا از آمدن راجہ صاحب چہ فخر و چہ فائدہ من دنیا داراں راسگ دروسیاہ می دامن۔ آئندہ ایں چنین حرکت بہ عمل نیاید۔ یعنی کتب الیہ کو ڈانٹ کر یہ فرمایا کہ مجھے راجہ صاحب کے آنے میں کوئی فخر اور فائدہ کی بات معلوم نہیں ہوتی۔ بلکہ دنیا داروں کو دنیا کا، کتا اور روسیہ تصور کرتا ہوں۔ آئندہ کبھی ایسی حرکت نہ کرنا۔ پنڈت اننت رام دیوان ریاست جموں و کشمیر زیادہ عقلمند تھا وہ آپ کے ذوقِ علم کو جانتا تھا۔ اس نے حضور سے ایک دفعہ ذکر کیا کہ حضرت شمس باز غنہ (یا صدر) کے بعض مقامات سمجھ میں نہیں آتے حضور سمجھا دیں۔ پہلے تو آپ نے عذر کیا کہ میں سب بھول بھال گیا ہوں اب کچھ یاد نہیں۔ لیکن جب اس نے اصرار کیا تو جن مقامات پر اسے شکوک تھے آپ نے

سج طرح رفع کر دیے۔ اور اس کی تسلی اور دلجوئی فرمائی۔ وہ اکثر آپ کو عرفینے لکھا کرتا تھا۔ خاتمہ پر لکھتا: ترا ب الاقدام انت رام، عموماً آپ کسی سے نذرانہ نہیں لیا کرتے تھے۔ لیکن اگر کوئی بدیہ بھیجتا تو اس کی خاطر رکھنے کو قبول فرما لیتے۔ اور بعد میں بدیہ کے بدلے خود اسے بھی بدیہ دیتے۔ زکوٰۃ کا مال لیتے سے انکار نہ ہوا۔ نذر و نذرانہ سے بھی اکثر اوقات پرہیز ہی کی۔ اگر کسی کا نذرانہ قبول فرمایا بھی تو فوراً اسے مستحقین میں تقسیم کر دیا۔ حکیم احمد دین صاحب (جو حضور کے خاص معتقدوں (سنکیوں) میں سے تھے) لکھتے ہیں: نذرانہ فرماتے ہیں۔ کہ آپ ایک دفعہ حاجیوالہ (جو براستہ کڑیا نوالہ آدان شریف کے قریب ہی ہے) میں ایک مکان کی چھت پر بیٹھے چار پائیوں کی آڑ کر کے خلوت سی بنائے طلب علموں کو سبق پڑھا رہے تھے۔ کہ ایک آدمی نے بڑے فخر سے سیبوں کی بھری پوٹی لوگری آپ کے پاس رکھ دی اور کہا کہ یہ جموں کے امیر اعلیٰ نے بھیجے ہیں۔ حالت تدریس میں آپ کو یہ دخل و معقولات سخت ناگوار معلوم ہوڑا۔ آپ نے پائے استحقار سے لوگری کو ٹھکرایا۔ اور سیب لڑھکتے ہوئے دورتک چلے گئے ساتھ ہی یہ فرمایا کہ مجھے ان چیزوں کی حاجت نہیں۔ حاضرین میں سے چند ایک نے منت سماجت کر کے آپ کو اس بات پر گماہ کیا کہ بدیہ تو منظور کر لیا جائے۔ مگر طلباء اور عزباد میں تقسیم کر دیا جائے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ بخشش و عطا آپ کی صفت تھی۔ اس میں خویش و بیگانہ کا لحاظ نہ تھا۔ کبھی مال جمع نہیں کیا۔ اگر اتفاق سے آپ کے چھوٹے بھائی کے پاس جو گھر کے منتظم تھے کچھ جمع ہو گیا تو اسے طلب فرما کر مستحقین میں تقسیم کر دیا۔

## آپ نے بیماری میں علاج کرایا ہے

خدائے عزوجل سے آپ اس قدر شرماتے تھے۔ کہ شروع حال میں بیماریوں کا علاج بھی نہیں کراتے تھے۔ مگر جس قدر عمر بڑھتی گئی۔ شریعت کا اقتضا زیادہ ہوتا گیا۔ اس عمر میں جب ضرورت ہوتی تو آپ کے متعلقین طبیب کو لاتے۔ تو آپ انکار نہیں کرتے تھے۔ اور جو دوا وہ بتاتے اس کو استعمال فرماتے تھے۔ ایک بار دہلی کے مشہور طبیب



حکیم محمد اعجاز خان مرحوم بھی آپ کے علاج کے لئے دہلی سے گجرات تشریف لائے تھے۔ آپ نے اکثر پیدل سفر طے کئے ہیں۔ اور کسی خاص مجبوری کی صورت میں پر بند ریل بھی سفر فرمایا ہے۔ وہ اکثر تیسرے درجے میں

## پیدل سفر

ہاں جب کمزوری بہت زیادہ ہو گئی تو خدمت گار جہاں بٹھا دیتے تھے۔ ریل میں بیٹھ جاتے تھے۔ پیدل سفر میں بالعموم ایک آدمی آپ کے آگے آگے چلتا تھا۔ کیونکہ آپ ہمیشہ مشغول بخت اور مستغرق رہتے تھے۔ اور اندیشہ ہوتا تھا کہ کہیں راستہ نہ پھوٹ جائے یا گڑھے میں پیر نہ پڑ جائے۔ ہاتھ میں ایک پنکھا رہتا تھا۔ جس سے چہرہ مبارک پر آڑ کئے رہتے تھے۔ اور نگاہ ہمیشہ جھکی رہتی تھی۔ آپ کی رفتار سبک اور تیز تھی۔ اور ہمراہیوں کو جھپٹ کر چلنا پڑتا تھا۔ کہ کہیں پیچھے نہ رہ جائیں۔ جب چلنے کی قوت نہ رہی تو کھٹولے پر سفر کرتے۔ اس کھٹولے یا پالکی کے اٹھانے والے چار شخص تھے جو بدری غلام احمد۔ جو بدری نور احمد۔ جو بدری کرم الہی۔ جو بدری فضل دین۔ یہ سب اپنے گھر کے اچھے کھاتے پیتے زمیندار تھے۔ اور جو بدری کے معزز لقب سے پکارے جاتے تھے۔ مگر اس خدمت کو اپنے لئے سعادت سمجھتے تھے۔ جو بدری الہ دینی نے ایک تھیلہ بنا لیا تھا۔ جس میں پانچ خانے آگے اور پانچ خانے پیچھے تھے۔ ان میں سے کسی میں دوا کی بوتلیں اور کسی میں کنگھی۔ اور سرمہ دان اور کسی میں درویشوں کے لئے سفر کا توشہ رہتا تھا۔

قلب مبارک میں جہاں عشق تھا۔ وہاں احکام شریعت کی پابندی بھی تھی۔ آتش عشق کی سوزش اتنی تھی۔

## قلب مبارک

کہ زمانہ کبولت میں بھی آپ روزانہ ٹھنڈے پانی سے نہاتے۔ شروع زمانہ میں آپ سر پر پانی بہت ڈلوایا کرتے تھے۔

مؤلف حالات ابوالفتح غلام محمود کے والد بزرگوار حضرت علامہ کاظمی محمد عبدالسبیل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے۔ کہ حضور عزیز نور رحمۃ اللہ علیہ سخت سردی کے موسم میں بھی ایک تاری مائل یعنی بہت پتلی مائل کا کرتہ پہنتے تھے اور اس کی وجہ عشق الہی کی گرمی تھی۔ جو آپ

کے عجم شریف کے اندہ کار فرما تھی۔ حاجی غلام حیدر ساؤل صاحب کہتے ہیں کہ جھڑی کی سرودھیا  
 میں انہوں نے دیکھا ہے کہ آپ آسمان کے نیچے پلنگ پر لیٹے ہوئے بیٹھا جھلوار سے ہیں  
 ۔ قلب کی گرجی سے بیقرار ہو کر آپ سینہ مبارک پر لکھن ملوانے اور لستی پیا کرتے تھے۔

## کسی کا دل دکھانا ناگوار تھا

آپ کسی کی دل آزاری کو نہایت ناپسند فرماتے تھے۔ اور شکستہ دلوں کو جوڑنا ہم  
 سمجھتے تھے۔ آپ کو اس بات کا خاص خیال تھا کہ جہاں تک ہو سکے کسی کا دل نہ دکھے۔

## عزیموں سے ہمدردی

آپ کسی پر ظلم ہوتا نہیں دیکھ سکتے تھے۔ اور خلق اللہ سے بے حد ہمدردی فرماتے  
 تھے اور ان کی عافیت اور رنج و راحت کا بہت خیال رکھتے تھے۔

بعض صورتوں میں آپ سفارش بھی فرمایا کرتے تھے۔ دیوان امرنا تھا۔ کشمیر کے  
 ودرائے اعظم کے خاندان سے تھے۔ ان کے پاس حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک  
 صاحب یار محمد خان کی سفارش فرماتے ہیں کہ اس شخص کے حال پر جہاں تک ممکن ہو  
 مروت فرمائیں۔

## آپ کی محبت بلا تفریق مذہب و ملت

ہندو مسلمان۔ عیسائی۔ سب سے آپ محبت سے ملتے۔ اور سب پر شفقت فرماتے  
 چنانچہ لالہ سری چند لالہ مول راج وغیرہ سے آپ کا ایسا ہی برتاؤ تھا۔  
 مولوی محمد یعقوب صاحب مسکن ممابہہ ہری پور ضلع ہزارہ نے آپ سے ایک  
 بار نازنیاز کے انداز میں عرض کیا۔ کہ آپ ہمارا خیال نہیں رکھتے۔ آپ نے فرمایا "یعقوب"  
 تم تو تم۔ مجھے تمہارے گھر کی مرعی تک کا خیال ہے۔ کہ کہیں آسے گیڈرنہ لے جائے  
 ارادہ مندوں سے محبت

حضرت ملا صاحب تیرا ہی آفریدی (رحمۃ اللہ علیہ) کو آپ ایک خط میں لکھتے ہیں۔ "کہ عین انتظار میں آپ کا خط ملا۔ اس ابر رحمت (ملا صاحب) کی کوئی خبر نہیں معلوم ہوئی تھی۔ حتیٰ کہ دوہینے گذر گئے۔ ایک صاحب سے سنا کہ آپ موصی پانڈک آ رہے ہیں۔ یہ سن کر بہت مسرت ہوئی۔" خان غلام حیدر خان کھلائی کو لکھتے ہیں کہ خدائے عزوجل تمام ان ہونی باتوں سے اپنے امان میں رکھتے۔"

حضور غریب نواز طبیباً متین تھے۔ مزاج کی طرف طبیعت مائل

## مزاج

تھی۔ لیکن نہایت ہذبانہ خوش مذاقی کو پسند فرماتے اور کوئی بے تکلف آشنا مزاج کی بات کرتا تو آپ تبسم فرماتے تھے۔ حکیم احمد دین صاحب مرحوم ساکن برنالہ نے بتایا کہ آپ مجھے سبق پڑھا رہے تھے۔ میں ابھی مبتدی تھا۔ اور سوز کی ابتداءی کتابیں پڑھتا تھا۔ سردی کا موسم تھا۔ سردی کو کم کرنے کے لئے آپ آگ تاپ رہے تھے۔ میں بھی پاس بیٹھا تھا کہ آپ فرمانے لگے التَّارُ فِي الشِّتَاءِ خَيْرٌ مِنَ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ۔ میں آپ کی زبان مبارک سے یہ جملہ سن کر منذبذب ہو گیا۔ آپ میری پریشانی اور اندرونی کیفیت سے آگاہ ہو کر فرمایا۔ کہ یہاں من قسیم ہے۔ یعنی خدا اور اس کے رسول کی قسم ہے۔ کہ موسم سرما میں آگ ایک خیر اور رحیمی شے ہے

اہل خانقاہ، درویشوں اور خاندان مشائخ کو

## مشائخ کا پاس ادب

آپ بہت پاس ادب کرتے تھے۔ اور جہاں تک ہو سکتا تھا ان کی مدارت فرماتے۔ اور تعظیم و تکریم میں کوئی دقیقہ اٹھانہ رکھتے۔ آپ

حضرت کے پرانے عقیدت سندسنگی تھے (یاد رہے کہ حضور غریب نواز کے عقیدہ تمندوں اور مریدوں کو سنگی کہا جاتا تھا) بہت وجہیہر، بامروت اور طبیباً فیاض تھے۔ مؤلف حالات ابوالفتح کے آبائی گاؤں موصی کھلائی صلیح ہزارہ کے معزز خوانین میں سے تھے۔ ان کی قبر کھلائی کی حضرت قاضی صاحب (رحمۃ اللہ علیہ) والی بڑی جامع مسجد کے درخت بوٹر کے پاس مؤلف کے دادا جی کی قبر کے قریب ہے۔ حضور واداجی کی قبر سے سمت قبلہ کی طرف عبد اللہ خان مرحوم کی قبر ہے اور اس سے اگلی قبر خان غلام حیدر خان مرحوم کی ہے۔ رحمۃ اللہ تعالیٰ

نور ڈھیر شریف کے صاحبزادہ صاحب کو لکھتے ہیں کہ آپ کا خط آیا گویا عید کا چاند  
 نظر آیا۔ بندہ خود حاضر ہونا چاہتا تھا مگر کمزوری بہت ہے۔ اور ضعف جسم کی وجہ سے  
 عارضی کی نعمت عظمیٰ سے محروم ہوں۔ مگر عزیزی محمد مسعود ارادہ رکھتا ہے۔ اگر استدعا  
 منظور ہو تو ہے سعادت۔

**پیر کی محبت** | حضرت پیر مرشد اخوند صاحب سے آپ کو بہت محبت تھی۔  
 ایک دفعہ اخوند صاحب کی وفات کے بعد سید و شریف ریاست

سوات (شیرین لے گئے تو ایک بے خودی سی حالت طاری تھی۔ اور جب وہاں سے  
 رخصت ہوئے تو مسجد و مزار مبارک بلکہ درو دیوار سے لپٹ لپٹ کر روتے تھے آنکھیں  
 ویدر شوب کی عادی تھیں اور کان بالمشافہہ کلام سنا کرتے تھے۔ جب یہ نعمت ان سے لے  
 لی گئی تو خیال محبوب کے آتے ہی آپ نے رونا شروع کیا۔ یہاں تک کہ ہچکی بندھ گئی۔ اور  
 گذشتہ زمانہ کی یاد میں یہ شعر بے تابانہ آپ کی زبان مبارک پر جاری ہو گیا۔

نیا یہ نزدیک دانا پسندہ شبان خفتہ سو گرگ درگوسفند سندی  
 جب حضور عزیز نواز رحمۃ اللہ علیہ

**سید و شریف کی پہلی حاضری** | موضع کفور ڈھیری (پشاور) میں تعلیم حاصل

کرتے تھے۔ تو مولانا کے بڑے بھائی حضرت اخوند صاحب کے اوصاف حمیدہ اور  
 فضائل بہت بیان کرتے تھے۔ طلبہ کی جماعت میں سابق صوبہ سرحد کے موضع ننگر ہار کا  
 ایک طالب علم تھا اس نے اصرار کیا کہ حضرت اخوند صاحب کی خدمت میں حاضر ہو کر ہم برکت  
 کی دعا کرائیں۔ آپ تامل کرتے تھے۔ کیونکہ فاصلہ بہت دور تھا۔ اور کوئی مخلص ہمراہی  
 نہ تھا۔ اسی تذبذب میں ۱۲۸۲ھ آیا۔ آپ نے تمام امور پر غور کر کے تصفیہ فرمایا کہ حضرت  
 اخوند صاحب کی خدمت میں حاضر ہو کر دعا کرائیں اور اس کے علاوہ آپ کے ہاتھ سے  
 دستار بندی کا شرف حاصل کریں۔ صغیر کا ہینہ اسی ارادے میں گذرا اور مزید چھ ہینے  
 تک آپ نے کوئی عملی اقدام نہیں فرمایا۔ حتیٰ کہ رمنان شریف کا ہینہ آیا اور سردیاں  
 شروع ہو گئیں۔ آپ موضع اتان زئی سے چوتھے روز پاشت کے وقت ریاست کے صدر مقام

سید شریف پہنچے۔ حضرت اخوند صاحب علیہ الرحمۃ نماز چاشت ادا کر کے صحن مسجد میں تشریف فرما تھے۔ خادموں میں سے ایک پشاور سی ملانے جو "فقیر درہ والا کے نام سے مشہور تھے" آپ کی حاضری کی اطلاع کی۔ کہ ایک عزیز طالب علم درسی کتابیں تمام کر کے دستار بندی اور دعائے خیر کے لئے حاضر ہوا ہے۔ اخوند صاحب نے "دیرہ خواہ" (بہت اچھا) فرمایا۔ ایک اور طالب علم جو علاقہ خوشاب سے آیا تھا مگر بڑا کہ حضرت سے بیعت کر لو۔ اور برابر اصرار کرتا رہا۔ حتیٰ کہ آپ کی طبیعت بھی مائل ہونے لگی۔ اب رمضان شریف کا جمعۃ الوداع آیا۔ اور لوگ دور دور سے آکر مسجد میں جمع ہونا شروع ہوئے۔ بعد اداۓ نماز جو جانے والے تھے چلے گئے۔ بقیہ ٹھہر گئے۔ حضرت صاحب قدس سرہ فرماتے ہیں۔ کہ میں حیرت زدہ حصولِ مطلب سے ناامید مسجد کے صحن میں بیٹھا بیٹھا تھا۔ کہ حضرت اخوند صاحب کے خلفاء میں سے ایک بزرگ نے مسجد کی دہلیز پر کھڑے ہو کر بلند آواز سے کہا کہ ہندوستانی طالب جو دستار بندی اور دعا کے لئے آیا ہے کہاں ہے۔ یہاں آئے تاکہ میں اسے حضرت اخوند صاحب کی خدمت میں لے جاؤں۔ میں دہاں حاضر تھا۔ فوراً ان کے پاس گیا حضرت اخوند کا فرمان ہوا کہ مسجد کے صحن میں بیٹھنے کی ایک جگہ مقرر کریں۔ تمام خاندانوں کے صاحبزادے اور علماء متبحر جو حاضر تھے۔ صحن میں حلقہ بنا کر بیٹھ گئے اور آپ کو اخوند صاحب کے حضور میں لے گئے۔ آپ نے گھٹے کے پڑے کی دس گز لمبی ایک دستار منگوائی۔ اور خود دست مبارک سے پہلا بیچ باندھا۔ پھر خاندانوں کے صاحبزادوں میں سے جسے جسے حکم ہوا اس نے ایک ایک بیچ باندھا۔ اور مجمع عام میں دعائے خیر کی گئی۔ جو لوگ جانے والے تھے چلے گئے۔ مگر آپ وہیں مقیم رہے۔ جب عید کا چاند نظر آیا اور شوال کی پہلی شب آئی اور حضرت اخوند صاحب حجرہ مبارک کے پاس تہجد کے لئے وضو کی جگہ تشریف فرما ہوئے تو آپ نے حیرت کر کے دعائے خیر، نفع علم۔ اور وطن جانے کی اجازت چاہی حضرت اخوند صاحب نے پوچھا۔ وضو داری (وضو ہے) حضرت قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جلد وضو کر کے حاضر ہوئے۔ حضرت اخوند صاحب نے ہاتھ پکڑ کر مرید کیا اور پہلا سبق

والا لله الا الله) تعلیم فرمایا۔ یکم شوال ۱۲۸۲ھ کی یہ شب اور تہجد کی نماز کا وقت تھا۔ آپ نے وہی صبح کو عید کی نماز پڑھی۔ اور پشاوریوں کی ایک جماعت کے ہمراہ رخصت ہو کر پشاور آگئے۔

رٹوٹ (مقامات محمود) میں اسی طرح لکھا ہے۔ مگر مؤلف کے والد ماجد نے آدان شریف بوقوع عرس شریف یوں بتایا تھا۔ کہ میں نے حضرت صاحب کی اپنی قاری میں لکھی ہوئی قلمی کتاب "عروة الوثقی" دیکھی ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ جب اخوند صاحب دستار بندی کے موقع پر دستار کے بیچ باندھنے لگے۔ تو پہلے بیچ پر پہلے آسمان اور دوسرے پر دوسرے آسمان اور یونہی مکمل دستار بندھنے تک ہر بیچ پر ایک آسمان کے حالات کھلتے کھلتے آخری بیچ پر ساتویں آسمان کے حالات منکشف ہو گئے۔ اور پھر حضرت اخوند صاحب نے شہدہ ٹولس کر فرمایا۔ مولوی بس، انتہی کلام

### عروة الوثقی

### سید و شریف کی دوسری حاضری

سید و شریف سے ابھی چھ مہینے گزرے تھے۔ کہ حضور نے دوسرا سفر اختیار کیا اور چار پانچ آدمی ساتھ ہو گئے۔ ربیع الثانی یا جمادی الاول ۱۳۸۳ھ کا مہینہ تھا۔ کہ آپ دوسری بار حضرت اخوند صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ بعض ہمایوں نے بطور تبرک حضرت اخوند صاحب سے سبق پڑھنے کی استدعا کی۔ موضع کھوکھر کے میاں نور احمد کے کانفیہ اور بابا نور کے فرزند میاں نظام الدین نے تفسیر یعقوب چوخی شروع کی۔ حضرت اخوند صاحب نے چند سبق پڑھائے۔ مگر جناب قاضی صاحب فرماتے ہیں کہ مجھ پر اتنی ہیبت طاری تھی کہ کچھ نہ پوچھ سکا۔ روانگی کا جب وقت آیا تو حضرت اخوند صاحب نے دعائے خیر کی اور بہت الفت اور نوازش ظاہر فرمائی۔ اور دوسرا سبق (الا للہ) تلقین فرمایا۔ اور شجرہ سلسلہ عطا فرمایا۔ پھر وہاں سے رخصت ہو کر وطن مبارک پہنچے۔

سید و شریف کی تیسری حاضری

گھر واپس آ کر عوث زماں حضرت اخوند صاحب کی محبت کا دلولہ

آہستہ آہستہ ظاہر ہونے لگا۔ مٹی کا مہینہ شروع ہو رہا تھا کہ آپ نے سید و شریف جانے

کا ارادہ فرمایا۔ والد ماجد نے بہت سمجھایا کہ گرمی کا موسم ہے اس میں سفر کرنا تکلیف کا باعث ہوگا۔ مگر آپ فرماتے ہیں کہ میرا کام اختیار سے باہر تھا۔ غرضیکہ آپ نکل کھڑے ہوئے۔ راتوں کا سفر کرتے دن کو آرام فرماتے۔ تیسرے دن پیروں میں آبلے آگئے۔ آپ نے پنجوں کے بل چلنا شروع کیا۔ یہ بھی تمک گئے۔ تو قدموں کے پیدوں پر چلنا شروع کیا۔ یہ بھی تمک گئے تو ایڑیوں کے بل چلے۔ یہ سب معمولیتیں تھیں۔ مگر دل اندر سے قوی تھا۔ روح تازہ اور خوش۔ راہ میں سوانی کی نذر عبور کرنی پڑی آبلے بھوٹ کر ایک ایک زخم بن گئے تھے۔ نہر پار کی مگر بخار آگیا پھر بھی آہستہ آہستہ موضع ریشمولہ راولپنڈی تک پہنچے۔ یہاں سات روز تک بخار رہا پھر زخم پر جرت کی ٹکیہ باندھی اور پھر سفر شروع کیا۔ پنجگٹھا پہنچ کر معلوم ہوا کہ سوات شریف کا راستہ بند ہے۔ بہر حال آپ نے پشاور پہنچ کر سوات جانے کے لئے ہشت مگر کا راستہ اختیار کیا۔ اور وہاں سے چند طلباء آپ کو بحفاظت سوات لے گئے۔ صاحب سوات علیہ الرحمۃ نے دیکھ کر فرمایا۔

در لیرے کئی مولوی را غلیدے یعنی دروازہ کھول دو مولوی آیا ہے۔ پھر فرمایا۔ لوٹے مخلص دے۔ لیرے نارازی یعنی بہت مخلص ہے دور سے آتا ہے۔ آٹھ دس روز قیام فرما کر آپ نے واپسی کی اجازت چاہی اور اخوند صاحب علیہ الرحمۃ نے تیسرا سبق جس میں اسم ذات کا مراقبہ ہے تعلیم فرمایا۔

پھر سید و شریف کی چوتھی حاضری میں حضرت اخوند صاحب نے آپ کو اسباق قادریہ کا جو تھا سبق فقط اسم ذات اللہ تلقین فرمایا۔ سید و شریف کی پانچویں حاضری پر اخوند صاحب نے پانچویں سبق "ہُو" کی تلقین فرمائی۔ چھٹی حاضری پر بقیہ تین سبق۔ اللہ ہُو۔ هُو اللہ، وَأَنْتَ الْهَادِي أَنْتَ الْحَقُّ لَيْسَ الْهَادِي الْاِهُو، ایک ساتھ تلقین فرمائے۔ سید و شریف کی ساتویں بار حاضری پر حضرت اخوند صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔ مولوی تمہارے سبق تمام ہو گئے ہیں۔ اب چلے کرو۔ پہلا چلے چالیس دن کا سہو گا۔ اور دوسرے دو دس دس دن کے ہونگے۔

مزار آپ نے فرمایا کہ اس طریق میں صوفیہ کے چار قدم ہیں۔ پہلے میں مراقبہ کے وقت باریک باریک اوزار نظر آتے ہیں۔ دوسرے میں مراقبہ کے وقت آفتاب و مہتاب نظر نظر آتے ہیں۔ تیسرے میں مراقبہ کے وقت خود اپنے سلفوں کی آواز کالوں میں آتی ہے۔ اور چوتھے میں جمیع ماسوی اہل انکھوں کے سامنے آجاتا ہے۔ اور فرمایا کہ حضرت اخوند درویشہ پشاور سی کی کتاب ”ارشاد الطالبین“ میں اس کی تفصیل اور شرائط خلوت و چلہ ملیں گے۔ حضور غریب لوانے نے یہ تمام چلے پوری شرطوں کے ساتھ تمام کئے۔ اور جو آثار حضرت اخوند صاحب علیہ الرحمۃ نے بیان فرمائے تھے۔ سب نظر آئے۔ یہ تمام تعلیم پانچ سال یا اس سے کچھ زیادہ میں پوری ہوئی۔ پھر لوزی حاضری پر سید و شریفین میں حضرت اخوند صاحب چار پائی پر آرام فرماتے حضور غریب لوانے کا ہاتھ پکڑ کر قریب کیا اور سینہ مبارک سے آپ کا سر قریب کر کے فرمایا۔ ”مولوی از طمانہ بچند روز ہی آئی“ یعنی مولوی گھر سے کتنے دن پہنچتے ہو آپ نے جواب دیا۔ قربانت شوم گا ہے بہ نہ روز گا ہے بہ وہ روز (کبھی نودن میں کبھی دس دن میں) یہ سن کر اخوند صاحب علیہ الرحمۃ نے فرمایا ”بارے مقام تو دور است۔ بعد ازاں اگر دل تنگ شوی بہ زیارت شاہد اولہ رخوشمالی شوی۔ برو، برو، برو، یعنی تمہارا گھر بہت دور ہے۔ اگر کبھی دل تنگ ہوا کرے تو حضرت شاہد اولہ کے مزار پر حاضری دیا کرو خوشحال رہو گے“ اس حکم کی تعمیل میں آپ گجرات حضرت شاہد اولہ علیہ الرحمۃ کے مزار پر اوزار پر حاضر ہوئے۔ یہاں کچھ مدت حاضری دینے کے بعد حکم ہوا۔ کہ اپنے پیر و مرشد حضرت اخوند صاحب علیہ الرحمۃ کی خدمت میں جاؤ۔ یہ سوات شریف کا دوسواں سفر تھا۔ چنانچہ رتہ (راولپنڈی) کے کچھ لوگوں کے ہمراہ آپ سید و شریفین پہنچے۔

قیام کے تیسرے روز زوال کے وقت حضرت اخوند علیہ الرحمۃ

**حکم خلافت**

نے آپ کے ہمراہیوں کو تمام لوگوں کی موجودگی میں

طلب کر کے طریقہ عالیہ قادریہ کا سبق دیا۔ اور اسی سفر میں حضرت قاضی صاحب



قدس سرّہ سے مخاطب ہو کر فرمایا۔ کہ مولوی راہِ حق بگو، یعنی لوگوں سے بیعت  
 نہ۔ اور انہیں خدا کا راستہ بتاؤ۔ آپ نے مولوی راہِ حق بگو کے جواب میں عرض  
 کیا۔ کہ من گہنگارم لائقِ برداشتہن این بارنیم، (میں گناہ گار ہوں اور اس بوجھ کو  
 اٹھانے کے لائق نہیں ہوں) حضرت اخوند صاحب علیہ الرحمۃ نے ہنس کر فرمایا  
 کہ۔ ہکدام گناہ میکنی (آپ کون سا گناہ کرتے ہیں) آپ یہ سن کر چپ ہو گئے۔  
 واپسی پر آپ بخار کی حالت میں رتہ (راولپنڈی) تک بمشکل پہنچے۔ وہاں تین دن قیام  
 کیا۔ تیسرے روز ایک نیم مجذوب فقیر نے آکر کہا۔ منبردار اس بیماری سے تنگ نہ  
 ہونا اور نہ ڈرنا یہ بیماری کاتب نہیں۔ بلکہ افغان پہلوان نے تیرے دل کے  
 چراغ کی بتی کو اپنی دلاوری میں آکر اندازہ سے زیادہ سلگا دیا ہے۔ نہ حکیم کو  
 ددا کر د اور نہ کوئی فکر و اندیشہ کرو۔ شربت پیو اور چائے جو تمہارے پر پیا  
 کرتے تھے۔ آپ کی آخری حاضری سید و شریفین میں ۲۹۰ھ میں ہوئی تھی۔  
 ۲۹۱ھ میں آپ نے ایک اور کوشش سید و شریفین حاضری کے لئے فرمائی۔ بیماری  
 کی حالت میں جب کہ پاؤں پر ابلے پڑے ہوئے تھے۔ بمشکل مندرہ تک پہنچے۔ رات  
 خواب میں دیکھا کہ کوئی کہہ رہا ہے۔ کہ مقصود کا ملنا اب ہی لیکر ہے یعنی حضرت شاہدِ دہلوی صاحب  
 آستانہ پر ممکن ہے۔ اور بادلِ تاخوستہ مجبوراً گجرات واپس ہوئے۔

حضرت اخوند صاحب کا انتقال

حضرت اخوند صاحب علیہ الرحمۃ  
 نے سات محرم ۲۹۵ھ مطابق

۱۲ جنوری ۱۸۷۷ء میں چوراسی سال کی عمر میں سفہ کے روز انتقال فرمایا۔

حضرت اخوند صاحب سوات کے حالات

حضرت صاحب سوات کا پیدائشی وطن سوات ہے۔ آپ کا اسم گرامی عبدالغفور  
 تھا۔ عوام الناس میں آپ اخوند صاحب سوات۔ سید بابا صاحب کے ناموں

سے مشہور تھے۔ اور اب بھی ہیں۔ آپ کے والد کا نام عبدالواحد تھا۔ سوات کے علاقہ شامیزی کے ایک گاؤں موضع جبرٹی میں آپ ۱۹۲۷ء میں پیدا ہوئے قومیت کے لحاظ سے آپ صافی تھیں۔ صافی کرلانی قبیلے کی ایک شاخ ہے جو افغان قبائل میں ایک معزز قبیلہ ہے۔

## بچپن اور تعلیم

اخوند صاحب کی طبیعت ابتدا ہی سے پاکباز تھی۔ ایام طفولیت میں جس گائے کا دودھ پیتے تھے۔ اس گائے کو بھی آپ خود ہی رسی پکڑ کر چرایا کرتے تھے۔ محض اس خیال سے کہ اگر گائے کو چرنے کے لئے آزاد چھوڑا جائے تو دوسرے شخص کے کھیت کا فضل کھا جائے گی۔ اس لئے آپ خود ہی اسے اپنی نگرانی میں چرایا کرتے تھے۔

ضلع پشاور کے بعض مقامات مثلاً چکنی، زیارت کا صاحب وغیرہ پر علماء سے آپ نے علمی استفادہ کیا۔ علم ظاہری کے تحصیل کے دوران اسی زیارت کا صاحب کی مسجد میں آپ نے چہہ کشی کر کے روحانی فیض بھی حاصل کیا تھا۔ علوم باطنی کے شوق میں آپ نے چلچلاتی دھوپ میں ننگے پاؤں سفر کر کے پشاور میں حضرت جی پشاورؒ کے حضور میں حاضر ہو کر آپ کے حلقہ ارادت میں شامل ہو گئے۔ اور دوسرے مریدوں کی طرح ذکر میں مشغول رہنے لگے۔ ایک دن ذکر کرتے ہوئے آپ وجد میں آئے اور بلند آواز میں ذکر کرنے لگے بلسلہ نقشبندیہ میں چونکہ بآواز بلند ذکر کرنا منع ہے۔ اس لئے دوسرے مریدوں نے جا کر حضرت جی سے آپ کی شکایت کی کہ سواتی بلند آواز سے ذکر کرتا ہے۔ حضرت جی ناراض ہوئے اور آپ کو بلا کر کہا کہ آپ پشاور سے چلے جائیں۔ مرشد کی تعمیل میں آپ نے پشاور کو چھوڑ دیا۔ اور ہندوستان جا کر کسی مرشد کو تلاش کرنے کا ارادہ کر کے چلے جا رہے تھے۔ کہ راستہ میں ایک مولانا صاحب ملے اور مولانا صاحب نے آپ کے حالات

سے خبردار ہو کر آپ کو اپنے ساتھ روانہ کیا اور تورڈھیری میں مولانا محمد شیب  
 المعروف شیخ صاحب کے پاس لے گئے۔ شیخ صاحب ان دنوں سلسلہ قادریہ کے مشہور  
 بزرگ تھے۔ چنانچہ تورڈھیری میں آپ نے شیخ صاحب سے بیعت کی۔ شیخ صاحب  
 نے آپ پر خصوصی توجہ فرمائی۔ اور آپ بہت جلد اسرارِ باطنی سے واقف ہو گئے  
 اور کافی عرصہ مرشد کی خدمت میں آپ تورڈھیری میں رہے۔ لیکن ۸۱۶ھ میں جب  
 حضرت شیخ صاحب نے انتقال فرمایا تو آپ نے تورڈھیری کو چھوڑ دیا۔ تورڈھیری  
 کو چھوڑ کر آپ نے دریائے سندھ کے کنارے آباد ایک چھوٹے سے گاؤں ”بیکلی“ میں  
 سکونت اختیار کی موضع بیکلی میں مسلسل بارہ سال تک آپ زہد و ریاضت و عبادت  
 اور چلہ کشی میں مصروف رہے۔ بارہ سال کے اس طویل عرصہ میں آپ نے کبھی مرغن  
 روٹی یا سالن وغیرہ نہیں کھائے۔ اس دوران میں آپ ”شموخا“ کی پکائی روٹی استعمال  
 کرتے رہے۔ واضح ہو کہ شموخا پشتو میں ایک بوٹی کو کہتے ہیں جو کہ ایک قسم کی  
 گھاس ہے۔ اس بوٹی کے بیج باجرے کے دانوں جیسے ہوتے ہیں لیکن باجرے کے  
 دانوں سے قدرے باریک ہوتے ہیں۔ غالباً یہ وہی بوٹی ہے جس کو پنجاب میں  
 ”برٹ“ اور ”سوانک“ اور ہزارہ کی بونی میں شوانک کہتے ہیں۔ سادہ بھادوا  
 کے مہینوں میں مکئی کی فصل کے اندر ہزارہ میں یہ بوٹی کثرت سے پائی جاتی ہے  
 اس کے دانوں کو پیس کر سوات میں روٹی پکاتے تھے۔ لکھا ہے کہ یہ روٹی  
 بد ذائقہ جیسی ہوتی ہے۔ مسلسل بارہ سال تک یہ بد ذائقہ روٹی استعمال کرتے  
 صاحب سوات کا مضبوط قوت ارادی کا وہ عظیم الشان کارنامہ ہے۔ کہ ریاضت  
 کی دنیا میں شاید ہی اس کی مثال مل سکے۔ ایک انگریز مصنف ڈاکٹر بلیو نے  
 لکھا ہے۔

”ان دنوں صاحب سوات اخوند بیکلی کے نام سے مشہور تھے۔ اور طریقہ  
 قادریہ کا مشہور سبق ”انت الہادی انت الحق لیس الہادی الا هو“  
 کا ورد کیا کرتے تھے۔ اور یہی آپ کا عقیدہ تھا۔ بیکلی میں رہتے ہوئے آپ کے تقدس

بزرگی کا شہرہ دور دور تک پہنچ گیا۔ ہزاروں عقیدت مند خدمت میں حاضر ہونے لگے۔ اور لوگ قائل ہوتے گئے (انتہی) پھر بعض نامساعد حالات کی بنا پر ۱۸۲۸ء میں آپ نے بیکی کو چھوڑ کر موضع نمل میں سکونت اختیار کی یہی وہ زمانہ تھا کہ پٹھان نوابوں نے سید احمد صاحب بریلوی کے مابین اختلافات پیدا ہو گئے تھے۔ غالباً انہی اختلافات سے بچنے کے لئے آپ نے بیکی کو بھی چھوڑ دیا۔ موضع نمل میں ایک مشہور عالم دین مولانا رسول شاہ صاحب سے آپ نے مزید علمی استفادہ کیا۔ پھر کچھ عرصہ بعد موضع سلیم خان کے باشندوں کے مجبور کرنے پر سلیم خان تشریف لے گئے۔

واضح رہے کہ اخوند اگرچہ فارسی لفظ ہے۔ لیکن پشتو زبان میں **اخوند** اخوند کے معنی بالکل وہی ہیں جو کہ انگریزی میں ڈاکٹر یا عربی میں امام کے ہوتے ہیں۔ اخوند کا خطاب اس زمانے میں پٹھانوں کی طرف سے ہمیشہ اس دور عالم دین کو دیا جاتا تھا۔ جو کہ نہ صرف بہت بڑا عالم دین ہو بلکہ ایک مجتہد بھی ہوتا ہو۔ یہی وجہ تھی کہ آپ کے عقیدت مندوں نے آپ کو اخوند کا خطاب دیا۔ سوات کے ماحول میں اخوند درویشہ کبجد پھر صاحب سوات کو ہی اخوند صاحب کے خطاب ملا ہے۔

مؤلف کتاب کے والد ماجد قاضی محمد عبدالسبحان صاحب نے حضور قبلہ سائیں چپ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زبانی بیان کرتے تھے کہ حضور سائیں صاحب حضرت والد ماجد صاحب سے مخاطب ہو کر فرماتے تھے کہ "ملا لوگ کیا کہتے ہیں کہ تو رڈھیر شریف والے حضرت شیخ محمد شعیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ولایت میں کیا مرتبہ تھا۔ تو والد صاحب نے عرض کیا کہ حضور لوگ کہتے تھے کہ وہ وقت کے ابدال تھے۔ فرمایا "اور حضرت صاحب مبارک علیہ الرحمۃ صاحب سوات (عرض کیا حضور لوگ کہتے ہیں کہ غوث تھے۔ تو فرمایا "ملا ان خیبر پانڈوں میں صاحب مبارک کو غوثیت کس نے سہلائی اور اس مقام تک کس نے پہنچا۔" جواب کہ پیر صاحب صرف ابدال ہی تھے۔" حضور سائیں چپ صاحب کا مطلب

اس سے توحید کی طرف توجہ دلانا تھا۔ یعنی وہ اللہ واحد ہی ہے۔ جو اپنے بندوں پر راز و  
سر لہتہ کا انکشاف فرماتا اور اپنے بندوں کو بلند مقامات پر فائز فرماتا ہے، ہاں تو  
صاحب سوات اپنے زمانہ کے عوث تھے۔

**مسئولت ناچھیز** | باعہدہ اولیاء اللہ میں سب سے نیچے مرتبہ اوتاد کا ہوتا ہے  
اور اوتاد دو تہ سے ہے۔ اور تہ میخ کو کہتے ہیں۔ اور

یہ اولیاء اللہ زمین کی گویا میخ ہوتے ہیں۔ حضرت والد صاحب نے بتایا تھا کہ اوتاد  
اولیاء اللہ کا تصرف پہلے آسمان تک ہوتا ہے۔ اور اس سے اوپر مرتبہ اور عہدہ  
ابدال کا ہے پھر قطب اور پھر عوث کا۔

## صاحب سوات سکھوں کے برخلاف جہاد میں

۱۸۳۵ء میں امیر دست محمد والے کابل کی دعوت پر حضرت صاحب سوات نے  
جہاد میں حصہ لیا۔

## چوبیس سال کے بعد وطن کو واپسی

ستمبر ۱۸۳۵ء میں صاحب سوات باجوڑ کے راستے سوات پہنچ گئے۔ چوبیس سال  
کا عرصہ ہوتا ہے کہ علاقہ نشامینری کے ایک گاؤں سے عبدالغفور نامی ایک ہونہار  
طالب علم تحصیل علم کے لئے سوات سے باہر مسافر بن گیا تھا۔ اب چوبیس سال کے بعد  
وہی طالب علم۔ علم اور عرفان کے ایک سمندر کو سینے میں سمائے ہوئے ایک عظیم عالم  
برگزیدہ انسان اور بہادر مجاہد کی حیثیت سے سوات کی خوبصورت وادی میں واپس  
پہنچ گیا۔ سے یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا۔

وادی سوات میں پہنچ کر اچھ عرصہ بلوچ کی مسجد میں قیام کیا۔ اور پھر صوڈی گلا  
کے قریب دامن کوہ میں غازی بابا کی زیارت میں مقیم ہو گئے یہاں کچھ عرصہ زہد و عبادت

گزارنے کے بعد مرغزار پہنچ گئے۔ مرغزار کی چوٹی میں ایک غار کو صاف کر کے اس میں مقیم رہے بعد ذکر الہی میں مشغول رہے۔ پھر موضع سپل بانڈی کے میاں گان صاحبان کے ایک وفد نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر سپل بانڈی میں قیام کی دعوت پیش کی تو آپ ان کی دعوت پر مرغزار سے سپل بانڈی تشریف لے گئے اور پھر وہیں آپ نے اسی گاؤں کی ایک پاکباز عقیقہ خاتون سے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں شادی کر لی۔ اس خاتون کا تعلق بھی سادات خاندان سے تھا۔ جیسے کہ کتاب "ساریخ ریاست سوات" میں لکھا ہے۔ چنانچہ اسی محترم خاتون سے ہی آپ کے دو فرزند عبدالحنان اور عبدالخالق پیدا ہوئے۔

## حضور صاحب سوات (رحمۃ اللہ علیہ) بحیثیت مجاہد

حضرت والد صاحب علامہ قاضی محمد عبدالسبحان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ انگریز جب ہندوستان میں قدم رکھنے لگا۔ اور اس کی فوجوں نے ادھر کا رخ کیا۔ تو وہ صاحب سوات علیہ الرحمۃ کی عورتیت کا زمانہ تھا۔ صاحب سوات ہندوستان کی سرحد سے باہر روحانی طور پر انگریزوں کی آمد کے مقام پر تشریف لے گئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت مولانا جامی علیہ الرحمۃ انگریزوں کے آگے آگے ان کی قیادت کرتے ہوئے تشریف لارہے ہیں۔ (یعنی روحانی طور پر) صاحب سوات علیہ الرحمۃ نے مولانا جامی سے کہا کہ اس مکار قوم کو آپ کیوں ہندوستان میں لارہے ہیں، مولانا جامی نے جواب دیا کہ میں نہیں لارہا بلکہ لانے والے لارہے ہیں۔ آپ اگر ان کے متعلق بات کرنا چاہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو حضرت تشریف لارہے ہیں۔ ان سے بات کریں۔ صاحب سوات جو پہلے گئے تو دیکھا کہ حضور عوث پاک سرکار بغداد تشریف لارہے ہیں۔ صاحب سوات نے ان سے عرض کیا کہ حضرت ان نبی آنکھ دانوں کو آپ ہندوستان میں کیوں لارہے ہیں۔ حضور عوث پاک نے فرمایا کہ "آپ بھی صاحب وقت ہیں ذرا دنیا میں نگاہ دوڑا کر دیکھیں تو کہ انتظام کے قابل کوئی دوسری قوم ان کے علاوہ آج روئے زمین پر باقی

جاتی ہے۔ صاحب سوات نے عرض کیا کہ حضور یہ تو صحیح ہے کہ یہ قوم منتظم ضرور ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ چونکہ عیار و مدار بھی ہے۔ اس لئے میں ان کو یہاں نہیں آنے دوں گا۔ اس پر سیدنا عوث پاک نے فرمایا کہ ”چونکہ آپ اس وقت کے عوث ہیں آپ کی عوثیت، مرتبہ و مقام کا لحاظ کرتے ہوئے میں یہ فیصلہ دیتا ہوں کہ آپ کا علاقہ سوات انگریزی تسلط سے باہر رہے گا۔“ یہ تو تھی کشف لکا اور روحانی کی بات، مگر دنیا والوں نے دیکھ لیا کہ صاحب سوات کا علاقہ سوات انگریزی تسلط و قبضہ سے باہر ہی رہا۔ انگریزوں کے سوات پر قبضہ کرنے اور سوات اور بونیر کے خوبصورت پہاڑوں میں کوٹھیاں تعمیر کرنے کا خواب باوجود انگریزوں کے ہزار جیش و کوششوں کے شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا۔ اور انگریز کفِ امنوس ملتے ہی رہ گئے۔ مگر سوات پر قبضہ نہ کر سکے۔ اور یہ سب کچھ رحیلِ عظیم، مردِ آسپن۔ عوثِ زمانہ صاحب سوات کا نصرت اور بارگاہِ خداوندہ۔ مسان کی عزت و دجاہت اور مقبولیت ہی کا اثر تھا۔

## غزائے بونیر اور صاحب سوات

۲۳ دسمبر ۱۸۶۳ء کو امبیدہ کے محاذ پر سندھوستانی مجاہدین اور صاحب سوات کے چند عقیدت مند صاحب سوات کے گرد حلقہ باندھے ہوئے سردسامانی کے عالم میں لڑ رہے تھے۔ اور انگریز فوج کی تعداد دس ہزار تھی۔ خدا کی شان دیکھیے کہ ایک طرف برطانیہ جیسی عظیم حکومت کی دس ہزار منتظم اور تربیت یافتہ فوج۔ ہر قسم کے اسلحہ اور توپوں کے ساتھ آزمودہ کارنوجی کمانڈوں کی کمان میں لڑ رہی تھی۔ اور دوسری طرف بے سردسامان مجاہدین تھے۔ جن کے پاس دیسی ساخت کی رائفلیں، لاکھیاں اور کلہاڑیاں تھیں۔ یاس ہمہ حالت یہ ہو گئی کہ انگریزی فوج کو کھل کھلنے کی ہمت نہ رہی۔ اور انگریزی فوج سے طرفہ محاصرہ کئے ہوئے تھی۔ اور انگریزی فوج کا ایک دستہ ایک انگریز کمانڈر کی سرکردگی میں مجاہد اعظم اور انیسویں صدی کے رحیلِ عظیم صاحب سوات کو گرفتار کرنے کے لئے آگے بڑھا۔ اب خدا کی قدرت دیکھیے۔ کہ اس

موقعہ پر انگریزی فوج کے کمانڈر اعلیٰ نے دُور بین لگا کر جب پہاڑوں کی طرف دیکھا تو اسے مجاہدین کی تعداد ساٹھ ہزار سے زیادہ نظر آئی۔ جو کہ جھاڑیوں میں چھپے نظر آرہے تھے۔ انگریز کمانڈر نے اسے غازیوں کی ایک جنگی چال سمجھتے ہوئے اپنی فوج کو فوراً واپسی کا حکم دیا۔ اور انگریز جرنیل نے صاحب سوات کی خدمت میں فوراً صلح کے لئے درخواست کی چنانچہ انگریزوں نے صاحب سوات کی اپنی شرائط پر صلح کر لی۔ امبیکہ کی اس لڑائی کے بعد انگریزوں کو پھر کبھی یہ بہت نہ ہوئی۔ کہ سوات اور بونیر کی تسخیر کے لئے فوج کشی کریں۔ اس خوبصورت دیس کو انگریز کی غلامی سے آزاد رہنے کا نذر ہمیشہ کے لئے انگریزی حکومت کے ستو سالہ دور میں حاصل رہا۔ اور یہ سب کچھ حضرت صاحب سوات کی باطنی توجہ و لقرن اور کرامت کا نتیجہ تھا۔

## صاحب سوات کی شہید مبارک

کھلا سوا چہرہ۔ سفید ڈاڑھی۔ رنگ عبادت اور دائمی ریاضت کی وجہ سے زرد۔ قد درمیانہ۔ بارعب چہرہ۔

## آپ کا لباس

صاحب سوات کا لباس سادہ سڑا کرتا تھا۔ ہمیشہ آپ ہلکی کھدرا استعمال کرتے تھے۔ سفید کھدرا کرتے۔ اور شلوار۔ سفید عمامہ اور کوٹائی چادر لیس یہی آپ کا لباس تھا۔

**خوراک اور غذا** | لذیذ اور مرغن غذائیں آپ نے کبھی استعمال نہیں کیں ہمیشہ کے لئے جو کھا روٹی اور قہوہ اور چائے بطور غذا استعمال کرتے تھے۔

## صاحب سوات کی زندگی کے مقاصد

... توجہ سے ...



۲۔ جہل بدعات اور باطل رسومات کا الٹاد۔

۳۔ سوات اور بونیر کے لئے حکومت الہیہ کا قیام۔

۴۔ سوات اور بونیر کو انگریزی سیلاب سے بچانا۔

۵۔ صوبہ سرحد کو انگریزی تسلط سے آزاد کرانا۔

## سوات میں حکومت الہیہ کا قیام

جب انگریزوں نے پشاور پر بھی قبضہ کر لیا۔ تو اخوند صاحب کو سوات کے ملحقہ علاقوں کے بچاؤ کی فکر دامن گیر ہوئی۔ آزادی اور تہذیب کے تحفظ کی خاطر آپ نے ایک مضبوط شرعی حکومت قائم کرنے کی کوششیں شروع کیں۔ چنانچہ سوات کے اندر حکومت الہیہ قائم کرنے میں صاحب سوات کامیاب ہو گئے۔ اور خود تو امیر بننے سے آپ نے احتراز فرمایا۔ مگر صانع ہزارہ کے موضع ستھانہ کے سید اکبر شاہ (جو کہ عوث زمانہ سید علی شاہ ترمذی المودن بہ پیر بابا علیہ الرحمۃ کی نسل سے متعلق تھے) کا نام اس مقصد کے لئے پیش کیا۔ چنانچہ سید اکبر شاہ کو ہی امیر شریعت منتخب کیا گیا۔

## صاحب سوات کی شخصیت

حضرت والد صاحب فرماتے ہیں۔ کہ ایک مرتبہ صاحب سوات علیہ الرحمۃ نے اپنے ایک خادم سے پوچھا (جو کہ عالم تھے) کہ میرے اندر شرعی نکتہ نگاہ سے اگر کوئی غلطی ہو تو مجھے اس پر مطلع کرو۔ اس نے عرض کیا حضور آپ کے اندر بھلا شرعی غلطی کہاں۔ آپ نے پھر دوبارہ فرمایا کہ نہیں اگر تمہیں کوئی شرعی سقم میرے اندر نظر آتا ہو تو ضرور مجھے بتاؤ۔ اس پر اس خادم نے عرض کیا۔ حضور اگر میں عتاب میں نہ آؤں۔ امان ملے اور جان بخشی ہو تو عرض کروں۔ فرمایا تمہارے لئے امان ہے کہو جو کہنا ہے۔ عرض کیا کہ آپ جب عربی عبارت پڑھتے ہیں تو اس میں بخوبی لحاظ سے غلطیاں ہوتی ہیں۔ یہ سب کہ آپ جوش میں آ گئے۔ مگر امان کا وعدہ نہ چکا تھا۔ وہ شخص

سلامت رہا۔ اور آپ کوئی بات کئے بغیر سیدھے مکان کی چھت کی سیڑھی پر چڑھنا شروع ہو گئے۔ اور پھر تین شبانہ روز مکان کی چھت پر ہی رہے۔ اور پھر جب نیچے اترے تو اس خادم سے فرمایا کہ میں نے جب پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو علم صرف پڑھنا شروع کیا۔ اور مکان کی چھت پر پہنچنے تک تمام علوم درسیہ مروّجہ میں نے پڑھ ڈالے۔ پھر تین دن تک مکان کے اوپر ذات و صفات خداوندی کے علوم پڑھنا رہا ہوں۔ اب اس کے بعد تم میرے عربی عبارت پڑھتے وقت خیال کرنا۔

**دوسرا واقعہ** | ایک دفعہ عصر کے وقت اخوند صاحب مسجد میں تشریف رکھتے تھے۔ کہ باہر سے ایک مجذوب درویش ایک موٹھے پر بلا اور دوسرے پر کتا باندھے مسجد کے اندر آگیا۔ آپ نے اس کی بیت و بلوئی فرمائی کھانے کو کچھ دیا اور پھر دیر تک اس سے باتیں کرتے رہے۔ اور جب وہ رخصت ہونے لگا۔ تو آپ نے چند قدم اس کے ساتھ چل کر اس کو رخصت کیا۔ حاضرین ساتھ ہی اس منظر کو دیکھ کر بہت حیران تھے۔ اخوند صاحب نے فرمایا کہ یہ مرد الہی صحیح درویش تھا۔ اور یہ جو اس نے بلا اور کتا باندھ رکھا تھا۔ یہ دراصل بلا۔ کتا نہ تھا۔ بلکہ اس کا نفس اور شیطان تھے۔ جن کو اس نے بصورت بلا اور کتا باندھ رکھا تھا۔ پھر فرمایا کہ ایسے بہت سے مرد خوبان الہی میں سے ہوتے ہیں۔ کہ جن کی شکل و صورت سے ظاہر بین لوگ کچھ نہیں سمجھ سکتے۔

**مؤلف ناچیز** | حدیث شریف میں ہے۔ کَمُ مِنْ أَشْعَثِ أَغْبَرَ  
كُوْا قَسَمٌ عَلَى اللَّهِ لَا بَرَاءَةَ (مشکوٰۃ شریف)

(کتاب الدعوات) اور دوسری روایت میں اتنا مزید اجنا ہے۔ مَرُّ فَوْعٍ عَلَى  
الْأَبْوَابِ رَتْجَةٌ بہت سے ایسے آدمی ہیں کہ بال بکھرے ہوئے۔ غبار آلودہ ،  
لوگوں کے دروازوں پر دھکے کھا رہے ہیں۔ کہ اگر قسم کھا کر کوئی بات کہہ دیتے ہیں۔  
تو ان کو اس قسم میں حانت نہیں کرتا۔ یعنی ان کے منہ سے نکلی ہوئی بات کو پورا  
کہہ دیتا ہے۔

”ڈاکٹر بیو“ ایک انگریز محقق نے لکھا ہے۔ کہ اخوند صاحب سوات کی شخصیت صرف پمٹالوں کے لئے محترم نہ تھی۔ بلکہ افغانستان اور عرب علاقوں میں بھی آپ کے معتقدین ہزاروں تھے۔ چنانچہ مصنفات موصل میں صرف اخوند صاحب کے معتقدین ایک ہزار سے زیادہ تھے۔ (انتہی)

علامہ جمال الدین افغانی نے اپنی تصنیف ”البيان فی تاریخ افغان“ میں لکھا ہے کہ ”اخوند صاحب کا شمار عالم اسلام کی برگزیدہ ہستیوں میں ہے۔ آپ کے فتوے مستند ہو کر تے تھے۔ اور آپ کا شمار ان عظیم السانوں میں ہوتا ہے کہ جن کے متعلق کہا گیا ہے

ثبت است بر جریدہ عالم دوام ما۔

آپ صرف گوشہ نشین زاہد ہی نہ تھے۔ بلکہ انیسویں صدی کے عظیم حریت پسند مجاہد۔ صاحب بصیرت، سیاست دان۔ عالم اسلام کے نامور عالم اور مجدد دین، اور میدان جہاد میں غازیوں کے ایک سرفروش رہنما بھی تھے۔ قطع نظر اس کے کہ آپ صاحب کرامات دلی اور غوث زماں تھے۔ صاحب سوات انیسویں صدی کے عظیم دانشور بھی تھے۔ آپ کی پیشین گوئیاں حرف بحرف صحیح ثابت ہو چکی ہیں۔

صاحب سوات کے بلند کردار اور خوش اخلاقی کی یہ حالت تھی کہ وہ متعصب پادری جنہیں مسلمان بزرگوں سے حذا واسطے کابیر ہوتا ہے۔ وہ بھی مجبور ہو گئے۔ کہ صاحب سوات کی عظمت کا اعتراف کریں۔ پشاور اور صوبہ سرحد کے لئے چرچ کے بعد ایک مبلغ اور مسیحی پادری ”ہیوگس“ نے صاحب سوات کی عظمت اور تقدس کا شہرہ سن کر بچشم خود دیکھنے سوات آئے۔ سوات میں بچشم خود سب کچھ دیکھنے کے بعد اسی پادری نے ”دی اخوند آن سوات“ ایک پمفلٹ لکھا۔ چنانچہ اسی پمفلٹ میں ”ہیوگس“ نے صاحب سوات کے متعلق لکھا ہے۔ کہ ”جن اوصاف نے آپ کو نہ صرف مسلمانوں کا مسلمہ روحانی پیشوا۔ بلکہ موجودہ دنیا کی ایک عظیم شخصیت کا مالک بنا دیا ہے۔ وہ آپ کا بے مثال تدبیر، بلند کردار، کریمانہ اخلاق اور بے ریا زہد و طاعت، پُر خلوص اور بے لوث اصلاحی جذبہ ہے۔“ (انتہی)

جے۔ آئی۔ پلوڈن۔ کے سی آئی۔ ایک اور انگریز مصنف اپنی یادداشت میں لکھتے ہیں۔ کہ بدموجودہ سوات کی عظیم ترین شخصیت اور سرد لغزیز راہنما جناب عبدالغفور خان اخوند آف سوات ہیں۔ جنی کے روحانی اقتدار کا پرچم نہ صرف کوستان سوات و بونیر پر لہرا رہا ہے۔ بلکہ ہندوستان، افغانستان اور دوسرے اسلامی ممالک میں بھی آپ کا کافی اثر و نفوذ ہے۔ آپ کے دیدار کے لئے صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ غیر مسلم بھی آتے ہیں۔ انتہا۔

یہ ایک حقیقت ہے۔ کہ صاحب سوات کا شمار ان عظیم دانشوروں اور مفکرین میں ہوتا ہے۔ کہ جنی کی ہستی پر صرف ملت اسلامیہ ہی نہیں۔ بلکہ پورے مشرق کو فخر و ناز کرنے کا حق حاصل ہے۔ آپ وہ عظیم انسان تھے۔ جو صدیوں کے بعد پیدا ہوتے ہیں۔

عمر بادر کعبہ و بیت خانہ فی نالہ حیات تاز بزم عشق یک دانائے رانا اید بر لہ

ایک ہندو کو پیٹ کے مرض کی شکایت تھی۔ بیماری دائمی قسم کی تھی۔ چنانچہ یہ لالہ جی صاحب سوات کی خدمت میں ایک دن حاضر ہوا۔ اور کہا کہ جناب اس مرض نے عیناً دو بھر کر دیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تمہارا علاج مشکل بھی ہے اور آسان بھی۔ لالہ جی نے حیران ہو کر پوچھا کہ صاحب وہ کیسے۔ آپ نے فرمایا۔ کہ گائے کا تھوڑا سا گوشت کھانے سے کامل صحت ہو سکتی ہے۔ لیکن تمہارے مذہب میں منع ہے۔ اس لئے میں تمہیں یہ نہیں کہہ سکتا۔ کہ گائے کا گوشت کھاؤ۔ ہندو نے کہا کہ رام رام گائے کا گوشت کیسے کھا سکتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ میں کب کپٹا ہوں کہ کھاؤ۔ البتہ میں نے کہا ہے۔ کہ تھوڑا سا کھانے سے اس مرض کا علاج ہو سکتا ہے۔ لالہ جی روانہ ہوئے تو راستے میں ایک جگہ دیکھا کہ گائے ذبح ہو چکی ہے۔ اور لوگ گوشت سمجھ کر کھا رہے ہیں۔ اب اسے خیال آیا کہ بطور دوا اگر تھوڑا گوشت کھا لوں۔ تو کیا مصلحت ہے۔ چنانچہ وہیں بیٹھ کر تھوڑا سا بھنا ہوا گوشت کھا لیا۔ ایک گھنٹہ کے بعد جب لالہ جی کو رفع حاجت ہوئی۔ تو ایک لمبا کیرا سانپ کی طرح باہر نکل آیا۔ چنانچہ مرین کے پیٹ میں وہ تکلیف ہمیشہ کے لئے ختم ہو گئی۔ اس واقع سے متاثر ہو کر وہ ہندو مسلمان ہو گیا۔ اس طرح

جسمانی علاج کے ساتھ ساتھ روحانی علاج بھی ہو گیا۔ اور بقول صاحب سوات اُسے شفا کے لئے کامل نصیب ہو گئی۔ صاحب سوات نے اگرچہ باقاعدہ طب نہیں پڑھی تھی۔ مگر تاہم آپ کے تجویز کردہ نسخے تیرہ ہفت ثابت ہوتے تھے۔

تو یہ تھی صاحب سوات کی عظیم شخصیت۔ آپ چوبیس سال مسلسل تحصیل علم اور ریاضت و حرلیقت کے سسے میں سوات سے باہر رہے۔ اور جب سوات آئے۔ تو سوات کے لئے وہ مخلصانہ جدوجہد کی۔ کہ سوات کا نام روشن ہو گیا۔

آپ کا مزار خاص سید شریفین میں صحن مسجد کے اندر واقع ہے۔ بڑی خوبصورت مسجد بنی ہوئی ہے۔ مسجد میں سے صاف پانی تانی میں بہ رہا ہے۔ جہاں لوگ وضو کرتے ہیں۔ آپ کے مزار پر بار بار باہر سے آنے والے لوگ اکثر اوقات موجود زیارت کر رہے ہوتے ہیں۔ مؤلف کتاب کے والد ماجد حضرت علامہ قاضی محمد عبدالسبحان صاحب رحمۃ اللہ علیہ افسوس کے ساتھ فرمایا کرتے تھے کہ کاش ہمارے آباؤ اجداد جو حضرت صاحب سوات علیہ الرحمۃ کے زمانہ میں موجود تھے آپ سے بلا واسطہ نسبت قائم کر لیتے۔ تو ان کی نسل کو دین و دنیا میں بالخصوص اتباع شرع مطہرہ میں خصوصی ترقی حاصل ہوتی۔ اور عشق الہی کے راستے میں آدان شریف کے طریقہ مقدسہ کے اندر جو لازمی تکالیف و پریشانیاں لاحق ہوتی ہیں یہ قطعاً نہ ہوتیں۔ بلکہ اتباع شرع شریف کا ایک صاف و شفاف راستہ لاکھ آیا ہوتا۔ اور دنیا و دین کا ہر کام سلیقہ اور کامیابی سے انجام پاتا۔

## صاحب سوات کے خلفاء و مریدین

روحانی اصلاح اور تنظیم کے لئے آپ نے مختلف علاقوں میں

ٹاڈون“ دامیرا مقرر کئے تھے۔ جو کہ انہوں نے صاحب سوات کے خصوصی مرید تھے اور جن کے اسمائے گرامی درج ذیل ہیں۔

۱۔ حضرت عبدالرحیم صاحب سہارن پور (لوہی پل۔ ہندوستان)

۲۔ حضرت قاضی صاحب عزیز نواز آدان شریف ضلع گجرات سابق پنجاب۔

۱۳ حضرت میاں صاحب حضور والے ضلع کیمبل پور

۱۴ چپری مٹا صاحب علاقہ تیراہ - قبائلی علاقہ

۱۵ حضرت مٹا صاحب کر بوفہ - ضلع کوہاٹ

۱۶ حضرت مٹا نجم الدین صاحب المعروف بہ مٹے مٹا صاحب افغانستان -

۱۷ حضرت مٹا عبد الوہاب المعروف بہ مانکی مٹا صاحب مانکی شریف ضلع پشاور

۱۸ حضرت محمود مٹا صاحب - جنوبی وزیرستان

۱۹ حضرت شاہ بابا صاحب - علاقہ دیر -

۲۰ حضرت پالام بابا صاحب - علاقہ دیر -

۲۱ حضرت سوٹا مٹا صاحب - تحصیل صوابی -

مذکورہ حضرات - آپ کے پروگرام کے مطابق ان مذکورہ علاقوں میں سرگرم

عمل تھے۔ حضرت قاضی صاحب عزیز نواز آدان شریف فرمایا کرتے تھے کہ حضرت

شاہد ولد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عشق الہی کے جن راستوں سے مجھے گزارا ہے اگر میرے

پیر حضرت اخوند صاحب کی برکت شامل حال نہ ہوتی تو میرا جامہ شریعت چل جاتا۔

حضور عزیز نواز کا یہ مذکورہ بالا قول مؤلف حالات کے والد ماجد کی زبانی

بحوالہ حضور دادا صاحب کتاب مقامات محمود کے ص ۱۸۱ پر نواب معشوق یار جنگ

بہادر (دکن حیدرآباد) نے درج فرمایا ہے۔

حضور والد صاحب کی زبانی سنا تھا۔

## حضرت میاں صاحب حضور

کہ میاں صاحب حضور اس قدر پابند

شرع اور محتاط و متورع تھے۔ کہ اپنے کھانے کے لئے سال بھر کے واسطے گندم سرگودھا

کے علاقہ سے اس زمیندار کی زمین سے منگوا کر لیتے تھے۔ جو کہ خود اپنی زمین کا

مالک ہونے کے ساتھ ساتھ زمین کو جائز پانی سے سیراب کرنے۔ اور عشرت نہانے

کا پابند ہوتا تھا۔ اور حضور میاں صاحب نے تمام عمر اپنی زمین میں تہا کو نہیں لگائے

نہیں دیا۔ حالانکہ حضور میں زمیندار اکثر اپنی زمینوں میں تہا کو ہی کاٹتے کرتے ہیں

اور یہ سب اثر تھا پیر و مرشد حضور صاحب سوات علیہ الرحمۃ کا کہ آپ تمہارا کو  
کے بہت مخالف تھے۔ جیسے کہ حضرت والد صاحب کی زبان صدق زبان سے  
سنا۔ مؤلف ناچیز ابو الفتح غلام محمود کو حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے  
ساتھ کئی مرتبہ حضور ضلع کیمبل پور میں حضرت میاں صاحب کے مقام پر حاضر  
ہونے کا موقع ملا ہے۔ حضرت میاں صاحب کے مزار پر انوار کی زیارت نصیب  
ہوئی ہے۔ فرموا اللہ تعالیٰ۔

## حضرت صاحب آوان شریف کے باقیماندہ حالات کا تذکرہ

حضور والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زبانی سنا تھا۔ کہ ایک دفعہ حضور  
عزیز نواز مکان کی سیڑھی پر چڑھ رہے تھے۔ کہ اچانک گر گئے۔ اور پھر کئی دن  
تک۔ تکلیف رہی۔ آپ کے محرم راز سنگیوں نے جو کہ آپ کے بلند مقام سے واقفیت  
رکھتے تھے۔ خلوت میں آپ سے اس گرنے کا راز پوچھ لیا۔ تو حضور عزیز نواز  
نے فرمایا۔ کہ اصل واقعہ یہ ہے۔ کہ میں روحانی پرداز کے طور پر عالم بالا میں اوپر  
جا رہا تھا۔ کہ عرش عظیم کے نیچے جو بہت بڑا توحید کا دریا ہے۔

جس کا تذکرہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے ضمناً مشنوی  
مؤلف ناچیز | معنوی میں یوں کیا ہے۔

ہست قرآن حالہائے انبیاء ماہیان بھر پاک کبریا

علہ حضور والد صاحب کی زبانی سنا تھا۔ کہ دریا کے جہلم کے اس کنارے پر صاحب سوات علیہ الرحمۃ  
روحانی طور پر موجود تھے۔ اور دوسرے کنارے پر حضرت شاہدولہ صاحب۔ تو صاحب سوات علیہ الرحمۃ  
نے دریا کے اس کنارے سے گلاب کا ایک پھول حضرت شاہدولہ کی طرف پھینکا جو حضرت شاہدولہ  
نے پکڑ لیا۔ اور یہ پھول درحقیقت حضرت صاحب آوان شریف تھے۔ جن کو صاحب سوات نے  
یوں حضرت شاہدولہ کے حوالے کر دیا۔

یعنی قرآن مجید میں انبیاء علیہم السلام کے حالات کا تذکرہ ہے۔ وہ انبیاء جو  
توحید کے پاک دریا کی پھلیاں ہیں۔

ہاں تو آپ نے بتایا کہ میں روحانی پرواز کے دوران توحید کے اس بڑے  
دریا کے کنارے جا پہنچا۔ پھر کیا دیکھتا ہوں کہ اُس دریا کے کنارے انبیاء علیہم  
سلام اور کئی ایک اولیاء کرام کھڑے ہیں۔ سوان کو دیکھ کر میں بھی وہیں کھڑا  
پڑ گیا۔ پیچھے سے شاہسوارِ عشق حضرت شاہدولہ علیہ الرحمۃ تشریف لے آئے  
اور مجھے دھکا دے کر عشقِ الہی کی اس آگ میں پھینک دیا جو کہ اُس دریا کے  
دوسرے کنارے پر تھی۔ مگر تھی اس قدر سخت اور زیادہ کہ اُس کے شعلوں کا اثر اِس  
کنارے پر پہنچ رہا تھا۔ حضور والد صاحب فرماتے تھے۔ کہ جس وقت یہ واقعہ پیش  
آیا۔ تو عشقِ الہی کی اس قدر گرمی پڑی کہ آوان شریف کے مولشی کیوں کے ساتھ  
میں سے ہوئے رسیاں توڑ توڑ کر بھاگنے لگے (العیاذ باللہ تعالیٰ)  
حضور عزیز نواز صاحب سوات کے وصال کے بعد دو مرتبہ سید شریف  
تشریف لے گئے۔

## پیر کا فرمان

حضرت اخوند صاحب نے نوزی حاضری میں ہی فرما دیا تھا۔ کہ اگر کبھی دل  
تک ہو تو گجرات جا کر حضرت شاہدولہ کے مزار پر حاضر ہوا کرو۔ راحت نصیب  
ہو گی۔ اس فرمان سے گویا کشفِ قبور کی چابی مل گئی۔

اس حکم کی تعمیل میں آپ  
**حضرت شاہدولہ کے دربار کی حاضری** نے گجرات کی حاضری

یعنی شروع کی۔ چوہدری اللہ دین صاحبناکن طاہر (صلح گجرات) نے بتایا ہے۔ کہ آپ نے

لکھنا تھا یہ بھی فرمایا۔ کہ یہ تو اپنی اپنی امتوں یا مریدوں کے لئے کھڑے ہیں۔ تم کس لئے کھڑے ہو گئے



ایک خواب دیکھا تھا۔ کہ کوئی کہہ رہا ہے۔ کہ تمہارا حصہ حضرت شاہدِ اولہ کے پاس ہے۔ اس کے بعد پھر یہی خواب دیکھا۔ اور جب حضرت انوند صاحب علیہ الرحمۃ سے آپ نے بیان فرمایا تو آپ نے بھی تصدیق فرمائی۔ اور آپ کا ہاتھ پکڑ کر حضرت شاہدِ اولہ کے سپرد کر دیا۔ (از کتاب مقامات محمود ص ۱۲۴) پہلی بار ۱۲۹۰ھ میں آپ جناب شاہدِ اولہ کے مزار پر حاضر ہوئے تو ادھر سے کوئی توجہ نہ دیکھی۔ دو تین بار پھر حاضر ہوئے مگر بے التفاتی ہی رہی۔ آپ فرماتے ہیں۔ کہ پہلا سال پورا حیرت و اضطراب میں گزارا۔ حضرت شاہدِ اولہ صاحب کی طرف سے ہیبت اور بے پرواہی تھی۔ مگر حاضری دینے کے سوا چارہ ہی نہ تھا۔ نیز اتنی تکلیفیں اور مصائب رونما ہوئے کہ بیان نہیں ہو سکتا۔ نہ کوئی یار نظر آتا اور نہ مددگار۔ منطق پڑھانے کی ممانعت کر دی گئی۔ جب آپ نے طالب علموں کو جواب دے دیا کہ منطق نہیں پڑھاؤں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہیبت کی کتاب شرح چغینی پڑھائیے۔ تو آپ نے اس کا کچھ جواب نہ دیا۔ اتنے میں والد ماجد کا خط آیا۔ کہ پہلے بیضاوی شریف کے رکوع دو رکوع تبرکاً پڑھاؤ تو اس کے بعد شرح چغینی بھی پڑھا دیا کرنا۔ (مقامات محمود ص ۱۲۴) مگر حضرت شاہدِ اولہ علیہ الرحمۃ کی طرف سے اجازت نہ ہوئی۔ مولوی عبدالرحمن صاحب ساکن پنڈی سرہال ضلع کمپل پور فرماتے ہیں۔ کہ ایک دفعہ آپ حضرت شاہدِ اولہ صاحب کے مزار کے نزدیک مسجد کے حجرے میں دوپہر کے وقت سو رہے تھے اور پاس شرح چغینی اور دوسری زائچے کی کتابیں رکھی ہوئی تھیں۔ کہ آپ نے خواب دیکھا کہ ایک قد آور سیاہ رنگ جوان سامنے کھڑا ہے اور کہہ رہا ہے کہ شرح چغینی اور زائچے کی کتابیں پڑھانے سے توبہ کرو ورنہ زمین کے ساتویں طبق کے نیچے اٹھا کر پھینک دوں گا۔ یہ دیکھتے ہی آپ بیدار ہو گئے اور گھبرا کر طلبہ سے فرمایا۔ کہ میں یہ کتابیں نہیں پڑھاؤں گا۔ ہاں مطول (علم معانی و بیان کی مشہور درسی کتاب) پڑھاؤں گا آپ نے پھر اس شخص کو خواب میں دیکھا کہ اس سے بھی منع کر رہا ہے۔ اس کے بعد

ایک یاد دہندہ اسی طرح کا خواب دیکھا۔ جس میں ایک صاحب جو بمطابق کتاب تنقحات محمود  
 محمد ابراہیم غازی المعروف بہ پیرے شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ ہونگے سخت غصہ میں آکر کہہ رہے ہیں کہ مثنوی مولانا  
 مولانا روم کو اور زیچ کو پھینک دو۔ اس کے بعد آپ نے طالب علموں کی صحبت  
 ہی ترک کر دی۔ ایک عرصہ کے بعد حضرت شاہد اولہ کا یہ حکم ہو ا کہ مسجد میں  
 امامت کرو۔ اور صبح بخاری پڑھایا کرو۔ آپ کو امید ہوئی کہ اور کتابیں بھی پڑھانے  
 کی اجازت مل جائے گی۔ مگر یہ امید بر نہ آئی۔ حضرت شاہد اولہ کے مزار پر  
 روزانہ چالیس پارے کھڑے ہو کر پڑھتے تھے قرآن پاک کے چالیس پارے پڑھنے کی  
 نوبت بتدریج آئی۔ یعنی ایک روز گیارہ پارے پڑھے۔ پھر چند روز کے بعد پندرہ  
 کر دیئے۔ پھر بیس کئے پھر پورا قرآن پاک۔ پھر اس پر پانچ اور پھر دس اور  
 پڑھائے۔ چالیس پارے روزانہ اس طرح پڑھتے تھے۔ کہ لب بند رہتے اور زبان  
 زبان تالو سے لگتی رہتی۔ پھر کچھ عرصہ کے بعد اسی ترتیب اور مقدار سے کم کرنا  
 شروع کیا۔ یہاں تک کہ پانچ پارے روزانہ کی نوبت آگئی۔ اس طریق تبادلات  
 میں نو چھینے لگے۔ زانو تک پاؤں پر درم آگیا۔ پھر عادت سی پڑ گئی۔ حضور غریب  
 نواز خود فرماتے تھے۔ کس اس لزوم سے جمعہ کے دن تھپی سوا کرتی تھی۔ مگر چھٹی  
 کے دوران طبیعت پر بے آرامی اور کسالت سوار ہو جاتی تھی۔ مغرب کے نفلوں میں سورہ یوسف  
 اور سورہ یسٰی لازمی ہو گئیں۔ نیز کبریت احمر، درود مستغاث اور قصیدہ بردہ (بوصیری) اور  
 دوسرے وظائف بھی اضافہ ہوئے۔ یہ تمام وظائف اور قرآن کھڑے کھڑے پڑھنا پڑتا تھا۔

حضور غریب نواز نے  
 حضرت داتا گنج بخش

## آپ کا مزارات اولیاء اللہ پر حاضری دینا

رحمۃ اللہ علیہ کے مزار گہر بار پر حاضری دی۔ اور رات کو وہاں قیام فرمایا ہے۔ سنا ہے  
 کہ ایک موقع پر لوگوں نے حضرت کو مجبور کر کے حضور داتا صاحب کی مسجد میں دعوت کہنے کے لئے  
 ممبر پر کھڑا کر دیا۔ حضور کچھ خاموش رہے۔ پھر فرمایا کہ بجا بیٹو پڑھا تو بہت کچھ تھا۔ مگر معمول  
 کا ہوں۔ بس اتنا کہنا تھا کہ لوگوں پر رقت طاری ہو گئی اور حاضرین نے رونا شروع کر دیا۔

حضور نے پشاور۔ لاہور۔ ملتان۔ دہلی۔ تونسہ شریف۔ شاہ مقیم۔ شیر گڑھ وغیرہ مقامات پر مزارات اولیاء اللہ پر حاضری دی ہے۔ والد صاحب سے سنا تھا کہ حضور نے اس دورہ کے بعد یہ ارشاد فرمایا کہ ”جتنے لوٹا سٹیا اے کچھڑا بھریا ہو یا آیا آ۔“  
تونسہ دعوٰاں دکھنا نظر آیا ہے، یعنی جہاں پر لوٹا بھینکا ہے۔ مراد جس مزار سے کچھ اکتساب فیض کیا ہے۔ کچھڑا بھرا ہوا اکتلا ہے۔ یعنی ٹھنڈک حاصل ہوئی ہے۔ مگر تونسہ شریف حضرت شاہ سلیمان رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر دھواں اٹھنا نظر آیا۔ یعنی وہاں پر عرش الہی کی کچھ گرمی محسوس ہوئی ہے۔

حضور عزیز نواز نے دہلی۔ پانی پت۔ پیران کلیہ شریف۔ اجمیر شریف کا بھی سفر ہے۔ آپ شیخ چوگانی رضی اللہ عنہ (جلال پور جہاں کے قریب بموجب آپ کے صحابی کا درجہ ہے) تشریف لے جاتے رہے۔

حضرت پیر لشکر کے مزار پر جو موضع مل میں ہے۔ آپ تشریف لے جاتے رہے ہیں صاحب مزار کا نام آپ نے ازراہ کشف حمیالان بتایا۔ کہتے ہیں کہ آپ حضرت لاروی علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ حضرت قاضی صاحب نے آپ سے بہت زیادہ فیض حاصل کیا آپ کا مزار موضع مل کے قبرستان میں واقع ہے۔ موضع مل آدان شریف سے تقریباً ایک میل (جانب جنوب) کے فاصلے پر واقع ہے۔

حضور عزیز نواز۔ حضرت سلیمان پارس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مزار اقدس پر شہر جہلم میں ریل کے پل کے قریب مغرب کی جانب برب دریا واقع ہے۔ بھی حاضری دے رہے ہیں۔ حضرت والد صاحب فرماتے تھے کہ حضور دریا کے جہلم سے پانی کا گھڑا بھرا مزار اقدس پر ڈالتے اور دربار عالیہ میں عرض کرتے کہ میں بھی جلا ہوا ہوں مجھ پر بھی پانی ڈال دیجئے۔ حضور عزیز نواز کی جگہ پر سلیمان پارس صاحب کے پاؤں کی طرف چھوڑا مسجد کے صحن میں پیل کے درختوں کے درمیان تھڑے کی صورت میں اب بھی یہ نشان قائم ہے۔ حضور عزیز نواز نے پیر سلیمان پارس رضی اللہ عنہ کے متعلق یہ بھی فرمایا ہے۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ حضرت پیر سلیمان پارس کا عرس مبارک ہر سال ماہ ساون کی آخری

یہ بیان کر دینا بھی ضروری ہے۔ کہ صرف آپ ہی مزارات  
اہل مزار کا آنا

پر نہیں جاتے تھے۔ بلکہ اہل مزار کی ارواح مقدسہ ہی آپ  
کے پاس آکر اپنا اور دوسرے مزاروں کا پتہ دیتی تھیں۔ اور حاضرین کے لئے بھی مشورہ  
دیتی تھیں۔

ابوالفتح غلام محمود اپنے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ  
مؤلف ناچیز

آدان شریف حاضر ہوا۔ وہاں حضور عزیز نواز کے خلیفہ حضرت شاہ نور اللہ صاحب  
سیالکوٹی کی زبانی سنا۔ کہ ایک مرتبہ میں حضور عزیز نواز کے ہمراہ سفر میں تھا۔ آپ  
راولپنڈی کے علاقہ میں دورہ کر رہے تھے کہ عصرِ عشاء کے وقت پانی کا ٹونالے حضور عزیز نواز  
استنجا کرنے کے لئے ایک کھلے مقام پر بیٹھنے لگے۔ تو نیچے سے آواز آئی کہ ”سوں سوں“  
یہاں میں سوں۔ آپ نے دہاں سے دوسری جگہ بیٹھنے کا ارادہ کیا تو دہاں سے بھی آواز آئی  
کہ ”سوں سوں“ آپ نے دہاں سے بھی ہٹ کر تیسری جگہ بیٹھنے کا ارادہ کیا تو دہاں سے  
یونہی آواز آئی۔ اور آپ اس وقت ایک کھلے میدان میں استنجا کے لئے بیٹھ رہے تھے۔  
بالآخر آپ نے استنجا کا ارادہ ترک دیا۔ اور جنے مقاموں سے آوازیں آئی تھیں۔ وہ کوئی  
قریباً سولہ مقامات تھے۔ قبروں کے نشان لگانے کے لئے مجھ سے فرمایا کہ شاہ جی پتھر  
لاؤ تاکہ یہاں قبروں کے نشانات بنا دئے جائیں۔ چنانچہ میں پتھر لاتا رہا اور آپ نشان  
بناتے گئے۔

حضور عزیز نواز کشف قبور میں بہت بلند پایہ رکھتے تھے۔ آپ نے ریلوے لائن  
کے اندر کئی مقامات پر قبریں بتائیں۔ تو انگریزوں نے آپ کی بات کا احترام کرتے ہوئے  
وہاں سے لائن ہٹا دی۔ جیسے کہ حضور والد صاحب نے بتایا تھا۔

حضور عزیز نواز کی کرامات

حضور عزیز نواز سے کئی قسم کی کرامتیں صادر ہوئیں۔ مگر یہاں صرف چند ہی کا

ذکر کیا جاتا ہے۔

## فراخی رزق

۱۱ ایک مرتبہ آپ بدلوٹ (ضلع جہلم میں کوٹلی کھائی کے پاس ایک گاؤں ہے) سے گزرے۔ تو ایک بڑھیا آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ اس گاؤں کے لوگ بہت بھوکے ہیں۔ خدائے عزوجل سے ان کے رزق کے لئے دعا کیجئے۔ آپ یہ سن کر کچھ دیر خاموش رہے۔ پھر فرمایا کہ خداتعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی۔ آپ کا گاؤں کبھی رزق کا محتاج نہ ہوگا۔ کہتے ہیں کہ اب اس گاؤں میں ہر شخص خوشحال ہے۔ اور دہاں دولت کی ریل پیل ہے۔

۱۲ سنا ہے کہ جہلم شہر کے مولانا حافظ نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس قدر عزیز تھے۔ کہ خود ان کی زبانی یہاں کے لوگ بیان کرتے ہیں کہ وہ کہتے تھے کہ میں ایک مرتبہ صرف چار آنے کے لئے موضع سنگھوٹی (جو جہلم شہر سے دس میل کے فاصلہ پر ہے) جنازہ پڑھنے پیدل چل کر گیا۔ اور راستے میں جوتی ٹوٹ گئی۔ اور پھر جب حافظ نور صاحب نے حضور قبلہ علم کی خدمت میں پہنچ کر اپنی غزبت کے بارے میں عرض کیا اور دعا کرائی تو آپ نے دعا بھی فرمائی اور ساتھ ہی فرمایا کہ حافظ صاحب دکان کھولو۔ اور لاکھ پتی بھی سو جاؤ تو دکان نہ چھوڑنا۔ چنانچہ حافظ صاحب نے دکان کھول دی اور وہاں کے لڑکوں کی کئی دکانیں اور کئی کنوئیں اور کافی جائیداد ہے۔ اور دولت کی بہتات اور ریل پیل ہے۔ لوگ ان کے مقروض ہیں۔

مؤلف ناچیز نے جہلم میں رہ کر خود ان کی دکانیں دیکھی ہیں۔ اب یہ لوگ کافی امیر ہیں۔ یہ سب حضرت صاحب کی توجہ اور دعا کا اثر ہے۔

کرامت ۱۳۔ ایک بڑا رئیس آدمی حضور عزیز نواز کا کہیں مرید ہو گیا۔ مگر پھر کبھی آپ کی خدمت میں حاضر نہ ہوا۔ ایک دفعہ ریل کے سفر سے کہیں جا رہا تھا۔ کہ اچانک اس کی ملاقات ایک پرانی آشنا انگریز مس سے اسٹیشن پر ہو گئی۔ رئیس مذکور نے

ٹرین کی بوگی ہی بک کر والی۔ تاکہ صرف وہ دونوں ہی تنہائی و خلوت میں سفر کریں۔ وہ لیڈی کپڑا اتان کر اسی کمرے میں لیٹ گئی۔ اور جب گاڑی اسٹیشن سے چل پڑی اور وہ رئیس تو اسی موقعہ کی تاک میں تھا۔ اس نے اُس لیڈی کے منہ سے کپڑا ہٹایا تاکہ اس سے اپنی حاجت برآری کرے۔ مگر دیکھتا کیا ہے۔ کہ وہاں بجائے اس کے حضرت صاحب آدان شریف لیٹے ہوئے ہیں۔ آپ کو دیکھ کر بے ساختہ اس کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ اور جب گاڑی اگلے اسٹیشن پر رکی تو وہ وہیں اتر کر سیدھا آدان شریف پہنچا۔ مگر شرم کی وجہ سے حضور کے سامنے نہ جاسکا۔ اور آپ کو جھانک جھانک کر دیکھنے لگا۔ مگر جب حضور کی نگاہ اس پر پڑ گئی تو فرمایا ”دُر کُتی دیا۔ انج تے نہیں کرید انا، یعنی دور ہو کتیا کے بچے ایسا تو نہیں کرنا چاہیے نا۔“ بس پھر کیا تھا جا قدموں پر گرا اور معافی مانگنے لگا۔ آپ نے آئندہ گناہ سے بچنے کا عہد لے کر معاف کر دیا۔

۱۴۴ حضور غریب نواز کے کشف قبور کا شہرہ سن کر باہر سے ایک مولوی صاحب آدان شریف آکر حضور سے عرض کرنے لگے۔ کہ حضور سنا ہے کہ اہل قبور سے آپ باتیں کر لیتے ہیں۔ کیا یہ صحیح ہے۔ فرمایا مولوی صاحب۔ اھٹ چاہے تو ایسا ہو سکتا ہے۔ عرض کیا حضور میں بھی اپنی تسلی کے لئے یہ منظر دیکھنا چاہتا ہوں۔ پہلے تو آپ نے اس کو اس خیال سے باز رکھنے کی کوشش کی۔ مگر جب اس کا اصرار زیادہ ہوا۔ تو آپ نے اس کی دلجوئی کے لئے ایک کاغذ پر سیاہی سے ایک سوال لکھ کر جواب چاہا۔ پھر اس مولوی سے کہا کہ یہ کاغذ موضع مل کے قبرستان میں حضرت پیر لنگر صاحب کے مزار پر ایک طرف رکھ کر خود دوسری طرف بیٹھ جانا۔ اگر صاحب مزار نے میرے سوال کا جواب لکھ دیا تو سمجھ لینا کہ اہل قبور سے اس دنیا میں بھی باتیں ہو سکتی ہیں۔ اور جیسے کہ لکھا جا چکا ہے۔ کہ موضع مل آدان شریف سے ایک میل کے فاصلہ ہے۔ چنانچہ وہ مولوی صاحب پیر لنگر صاحب کے مزار پر پہنچے اور حضور کے سوال والا کاغذ مزار کے ایک طرف رکھ کر خود دوسری طرف بیٹھ گئے۔ بیٹھ تو گئے۔ مگر خیال آیا کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی آدمی آکر جواب لکھ جائے۔ چنانچہ بار بار اٹھ کر راستہ بھی دیکھتے رہے۔ اور پھر حقوڑی دیر بعد جب وہ کاغذ دیکھا۔ تو یہ دیکھ کر

مولوی صاحب کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ کہ سوال تو سیاہی سے لکھا ہوا تھا۔ مگر جواب خالص شگرف سے لکھا ہوا ہے۔ فوراً حضور کی خدمت اقدس میں پہنچ کر قدموں پر گر گئے۔ اور عرض کرنے لگے۔ کہ حضور کشفِ قبور کا یہ طریقہ مجھے عطا کر دو۔

رہا مستری احمد بخش صاحب رتہ رتہ اولپنڈی والے پہلے دہلوانی تھے۔ اور اولیاء اللہ کی کرامات کے قائل نہ تھے۔ ایک دفعہ لالہ موسیٰ میں انہیں حضرت صاحب کی قدمبوسی نصیب ہوئی۔ اور حضور جب باہر تشریف لے جانے لگے۔ تو وہ بھی ساتھ ہوئے۔ راستہ میں انگریزوں کا قبرستان آتا تھا۔ وہاں آپ نے ایک قبر کو دیکھ کر فرمایا کہ یہ شہید کی قبر ہے۔

آپ کے ارشاد کی دو وجہیں ہو سکتی تھیں۔ ایک تو یہ کہ جوگ میں دوست دشمنی سب ایک جگہ گرتے ہیں۔ لہذا ہو سکتا تھا کہ وہ کسی مسلمان کی قبر ہو۔ اور دوسری یہ کہ بعض لوگ عند اللسان

بظاہر تو کافر ہوتے ہیں۔ مگر اللہ تعالیٰ کے علم میں پوشیدہ مسلمان شمار ہوتے ہیں۔ ممکن ہے وہ کون ایسا مسلمان ہو۔ مگر مستری صاحب نے اعتراض کر دیا۔ کہ یہ انگریزوں کا قبرستان ہے

اور ایک عیسائی کیسے شہید کہلا سکتا ہے۔ جب آپ کے سمع مبارک تک یہ بات پہنچی۔ تو آپ نے فرمایا کہ ایک آدمی اگر کچھ کہے تو اسے سوچے سمجھے بغیر غلامت کہو۔ جب حضور اور سب ہمراہی کچھ اور آگے گئے تو آپ نے ایک رومال مستری صاحب کے سر پر رکھا۔ مستری صاحب نے

کہنا شروع کیا کہ کشمیر میں اس وقت یہ ہو رہا ہے۔ اور دو تین باتیں انہوں نے اور بھی

کہیں۔ کہ آپ نے ان کے سر سے رومال اٹھالیا اور فرمایا کہ مستری جی کیا کہہ رہے ہو انہوں نے قسم کھا کر کہا کہ جس نے آپ کو یہ رتبہ بخشا ہے اسی کی قسم ہے کہ اس وقت میں

کشمیر میں تھا۔ اور جو کچھ میں کہہ رہا تھا۔ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔

مؤلف ناچیز | چونکہ مستری صاحب رتہ والوں کی قسمت اچھی تھی۔ اور انہوں نے آگے چل کر کچھ بننا تھا۔ اس لئے حضور غیب

لوازنے انہیں دکھایا۔ ورنہ یہ اللہ والے ہر ایک کو چاہے وہ معترض ہو نہیں دکھایا کرتے۔

مرید زیر تحویل | چوہدری الہ دین صاحب فرماتے ہیں۔ کہ ایک مرتبہ میرے بھتیجوں پر ایک مقدمہ دائر ہو گیا۔ جس سے میں بہت

پیشانی تھا۔ فریق ثانی دولت مند اور صاحب اثر تھا۔ میں فکر مند تھا۔ کہ میرے بھتیجوں  
 نہ معلوم کیا حال ہوگا۔ مگر آپ کے سامنے کوئی بات زبان سے نکال نہیں سکتا تھا۔  
 دن ہی یہ چاہتا تھا۔ کہ اس معاملے کے متعلق کوئی اور ان سے بات کرے یہ نہیں چاہتا تھا۔

آپ کے سامنے ہمارے دنیا کے ایسے جھگڑے آئیں۔ جو آپ کی پریشانی خاطر کا موجب  
 ہوں۔ ایک شب آپ نماز تہجد کے لئے بیدار ہوئے میں سامنے دھنوکے لئے پانی لئے  
 بٹھا تھا۔ آپ نے میری طرف دیکھ کر فرمایا ”یہ قلع کیوں ہے۔ میرے متعلقین کے  
 ماتھو جو ہونے والا ہوتا ہے۔ اس پر میرے دستخط لے لئے جاتے ہیں۔ جہاں تک ممکن  
 ہو ان کی حمایت کرتا ہوں۔ لیکن جہاں یہ امکان نہیں ہوتا۔ مجبوراً دستخط کر دینا ہوں۔  
 پیام نے خواجہ سلیمان تونسوی کا حال نہیں سنا۔ کہ ایک بار دہلی کے بادشاہ کی معزولی  
 کے حکم پر انہوں نے چوہ چاپ دستخط کر دیئے تھے۔ اسی طرح مجھ سے بھی دستخط لے جاتے  
 ہیں۔ اور مجھ سے جس قدر ہوتا ہے اپنے عقیدت مندوں کی بھلائی کی کوشش کرتا ہوں۔  
 ”تہہ چین نہ ہو۔“ خدا کی قدرت کہ یہ فیصلہ میرے بھتیجوں کے حق میں ہوا۔ اور فریق  
 ثانی کی اپیل بھی خارج ہو گئی۔

آپ کے مشہور سنگی مولوی نیاز محمد خان صاحب  
 وکیل جالندھر بیان کرتے تھے۔ کہ ایک دفعہ میں

## علم غیب و تصرف

عزیم نواز سے حسب معمول کل کی واپسی کی اجازت طلب کی جو نہ ملی۔ عرض کیا مؤکل  
 نظر ہوں گے۔ جن کے مقدمات کی تجدید پر وی کرنا ہے پوچھا کہ کتنے مقدمے ہیں۔ میں نے اپنے  
 دل میں تعداد گن کر عرض کی اس دن بہر حال اجازت نہ ملی۔ اس سے اگلے دن کی  
 شکاری ہوئی۔ میں جب جالندھر پہنچا تو معلوم ہوا کہ جس گاڑی میں میں پہلے آنا چاہتا  
 تھا۔ امرتسر کے قریب دوسری ٹرین سے ٹکرائی گئی۔ عدالتوں میں جا کر پتہ لگا۔ کہ جن  
 مقدمات کی تعداد میں نے عزیز نواز کی خدمت میں عرض کی تھی ان سب کی تاریخ ملتوی  
 ہو گئی۔ لیکن ایک مقدمہ جو میری یاد سے رہ گیا تھا اور تھا بھی جو موادہ خارج  
 ہو گیا۔



## مؤلف ناچیز

حضور قبلہ عالم کی بے شمار کرامتیں ہیں۔ کہاں تک ذکر کرے۔ آپ تو خود مجسم کرامت تھے۔ ۱۳۳۷ھ شعبان المعظم کی پہلی مطابق ۲ مئی ۱۹۱۹ء اور جمعہ کا دن تھا۔ کہ روح مبارک نے نفس عنصری سے اختیار کیا۔

## تاریخ وصال

قبلہ ما سلطان محمود  
۱۳۳۷ھ  
کل نفس ذالقة الموت  
۱۹۱۹ء

حضور کے خلیفہ حضرت ملا نیاز الدین صاحب تیراہی نے غسل دیا اور نما پڑھائی۔ حضور عزیز نواز کا مزار پر انوار آدان شریف میں مرجع خلافت ہے۔

## حضرت شاہد اولہ گجراتی رحمۃ اللہ علیہ

حضور کا انتقال ۱۰۸۵ھ میں ہوا ہے۔ اور مزار مبارک گجرات (مغربی پاکستان) میں واقع ہے۔ آپ کے مزار مبارک پر یہ تاریخ لکھی ہے۔  
بہ توحید آل عارف حق گزیدہ  
بگوشاہد اولہ بجزت رسیدہ  
۱۰۸۵ھ

آپ کا ایک مزار احمد آباد صوبہ گجرات بھارت میں بھی ہے۔ اور اس کی اہمیت ہی حقیقت ہے۔ جیسے کہ حضرت شرف الدین بوعلی شاہ قلندر کا ایک مزار پانی پور میں ہے اور ایک کرنال میں۔ سنا ہے کہ دونوں مقامات۔ بلکہ ایک تیسرا مقام سننے میں آیا ہے۔ یعنی بدھ کھیرا، میں حضرت بوعلی شاہ قلندر ہی کا انتقال ہوا اور لوگوں نے دیکھا کہ بیک وقت ان تمام مقامات میں حضرت بوعلی شاہ قلندر

مقالہ پڑھا۔ اور ان ہی کا جنازہ سب مقامات میں پڑھایا گیا۔ اور پھر آپ کو تمام مقامات میں ایک ہی تاریخ میں سپردِ خاک کیا گیا۔ یا جیسے کہ حضرت کرار امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ایک مزار مشہد مقدس نجف اشرف شریف ہے اور دوسرا افغانستان میں اور یہ دونوں زیارت گاہ خواص و عوام ہیں۔ اور ان مزاروں پر زائرین مولانا کاٹھنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے مزار سمجھ کر حاضر فرماتے ہیں۔

حضرت شاد بدولہ علیہ الرحمۃ کے بارے میں حضور قاضی صاحب عزیز نواز آدان لہنا سے ایک روایت بزبانی چوہدری الہ دین صاحب ساکن طاہر ضلع گجرات ہے کہ آپ نے فرمایا کہ حضرت شاد بدولہ صاحب علیہ الرحمۃ کا نام کبیر الدین تھا۔ اور سید تھے۔ آپ بغداد سے تشریف لائے تھے۔ اور جناب بڑے پیر صاحب علی الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید اور دھوکرا نے والے تھے۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ حضرت شاد بدولہ صاحب نے دھوکرا تے وقت جناب بڑے پیر صاحب علی کرم اللہ وجہہ سے پوچھا۔ کہ آپ حیات کیا ہے۔ آپ نے فرمایا میرے اس چلو پانی میں گیس کی ٹر ہے۔ حضرت شاد بدولہ صاحب نے لپک کر پانی پی لیا اور قریباً اس کی عمر پائی۔ بابا شاد بدولہ صاحب یہ لپک کرتے تھے۔ کہ خلق اللہ کی خدمت کی جائے۔ بدبو دور نالیاں جو عوام کی تکلیف کا باعث ہوتی ہیں صاف کر جائیں۔ کمزوروں اور ضعیفوں کے گھر آنا پس کرنا چاہئے۔ کسی معذور و مجبور کو لکڑیاں کاٹ کر ڈالی جائیں۔ اور کسی کے مویشیوں کے لئے گھاس کھود کر چارہ دیا جائے۔ آپ بے حد خداترس۔ مظلوموں کے ہمدرد۔ خاص کر مجبوروں اور یتیموں کے لئے سزا اور مددگار تھے۔ اور جو کام مسلمانوں یا دیگر اقوام کے راحت و آرام کا یا صدقہ جاریہ کی قسم سے ہوتا۔ جیسے پل دسراٹے وغیرہ آپ تعمیر کراتے اور

کتاب "حقیقت گلزار صابری" جو ۱۳۰۷ھ مطابق جولائی ۱۸۹۰ء میں

مسنی واقعہ مصطفیٰ آباد (عرفاً رامپور) ریاست روہیلکھنڈ بھارت میں چھپی

تھی۔ مؤلفہ جناب محمد حسن صاحب صابری۔ چشتی۔ صنفی قدوسی میں لکھا ہے۔ کہ بڑے پیر صاحب سیدنا عزت الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مکتوب لفظ بکر الوحده، میں لکھتے ہیں۔ کہ ۱۹ ماہ رجب ۵۲۱ھ کو پنجشنبہ کے دن بعد نماز مغرب میں نے سید کبیر الدین شاہ دولہ بن حضرت سعید موسیٰ جنگی دوست عموی حقیقی کو بیعت توبہ سے اپنے ہاتھ پر مشرت کر کے تعلیمات کیفیت باطنی سے بہرہ کیا۔ اور ترقی کیفیت باطن میں متوجہ کر دیا۔ اور ذیقعدہ ۵۲۸ھ کو بروز

رسو موہکے بعد عصر کے محفل عام میں اپنے ہاتھ بٹھا کر بیعت، امامت وارث سے مشرت کر کے اپنی کلاہ مبارک عطیہ پیر و مرشد عطا فرمائی اور عمامہ سبز اپنے سے باندھ کر خرقة پہنایا اور مثالی خلافت بظاہر قطب الاسرار حبیب کے ہاتھ کو سنا کر مرحمت فرمائی۔ اور خود حضرت شاہ دولہ صاحب نے بھی اپنے مکتوب لفظ "تحفة الارواح" اسرار عزت اکبر البکیر میں اپنے بارے یوں تحریر فرمایا

چونکہ حضرت شاہ دولہ صاحب کو بارگاہ عویشیہ میں **مؤلف ناچیز** قطب الاسرار حبیب کا لقب ملا تھا۔ واقعی آپ ذات گرامی اور ہستی مبارک ایک عجیب پراسرار ہستی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ بارے روایات بھی مختلف ملتی ہیں۔

حضرت والد صاحب سے سنا کہ **آپ کی زندگی کا ایک واقعہ** کہ حضرت شاہ دولہ علیہ الرحمۃ نے دریائے چناب کے کنارے پرپل بنوار ہے تھے۔ دن میں جو کام ہوتا رات کو پراسرار چیز آکر اس کو گرا جاتی اور درہم برہم کر جاتی۔ حضرت کی خدمت میں اس کی اطلاع کی گئی آپ نے فرمایا رات کو پیرہ دو۔ چنانچہ ایک خادم پیرہ پرہم ہو گیا۔ قریباً آدھی رات کے وقت کوئی شے آئی اور پل کے بنے پوٹے حصے گرانے لگی۔ خادم نے روکنا چاہا تو آہنیوالے شخص کے دونوں ہاتھ پکڑ لئے۔ اس کے تعمیر شدہ حصے کو گرا کر چلتا بنا۔ دوسرے دن جب حضرت کو اس واقعہ کی اطلاع

فرمایا۔ اچھا آج رات میں خود پرہ دوں گا۔ چنانچہ حضور حضور رات کو پل کا پرہ دے رہے تھے۔ کہ وہ آنے والا آگیا اور پل کو گرانا چاہا۔ حضرت نے منع فرمایا تو اس نے کہا کہ قریب نہ آنا، مگر آپ نے اس کو پکڑ کر اس کے تمام دانت توڑ ڈالے۔ اور پھر اس کو پکڑ کر لے آئے۔ وہ ایک قوی ہیکل تھو تھا۔ جو بعد میں حضرت شاہد دلہ صاحب کلہرید ہوا۔ کہتے ہیں کہ حضرت شاہد دلہ صاحب کے مزار واقع شہر گجرات مغربی پاکستان کے اس چھوٹے دروازے سے یا مہر جو مسجد کے کنوئیں کے قریب محلہ بیگم پورہ کی سمت ہے جو مزار ہے یہ اسکا جن کا مزار ہے۔ واللہ اعلم بالصواب و عنذہ حقیقتہ الامور۔

کہتے ہیں کہ حضرت شاہد دلہ صاحب کی قبر مبارک بھی سادہ سی تھی۔ آپ کے مزار پر جو موجودہ عالی شان عمارت حضرت صاحب آدان شریف نے بنوائی ہے۔ اور غالباً حضور مغرب نواز کے مرید و خلیفہ بابا مستری صاحب مرحوم موضع رتہ دراولپنڈی والوں کا زیر نگرانی تعمیر ہوئی ہے۔

کہتے ہیں کہ جو ناقص الخلقیت بچے آپ کے چوبے مشہور ہیں وہ ان بانجھ عورتوں

کے پہلے بچے ہیں۔ جو اولاد کے لئے دعا کرانے آپ کے پاس آتی تھیں۔ اور اچھی ہو کر صاحب اولاد ہوتی تھیں۔ اب بھی جو اس قسم کی مدت مانتا ہے۔ اس کے ہاں پہلی اولاد ایسی ہی ہوتی ہے۔ حضرت شاہد دلہ صاحب نے آخری زمانہ میں خاندان سہروردیہ کا فیض حضرت سید شاہ صاحب لکھنؤ سے حاصل کیا اور سنہ مذکور میں انتقال فرمایا۔ بیماری آبائی لائبریری میں حضرت شاہد دلہ صاحب کے حالات میں جو پرانی مطبوعہ کتاب ہے۔ غالباً یہی حقیقت گلزار صابری ہے۔ ” ہے۔ یا کوئی اور کتاب جو حال ہے فارسی زبان میں اور اس وقت پاس موجود نہیں۔ کیونکہ ناچیز جہلم میں بیٹھا حالات مرتب کر رہا ہے۔ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں وہ کتاب لکھی گئی تھی۔ حضرت شاہد دلہ صاحب کے حالات میں اس نے لکھا تھا۔ کہ آدھی رات کو بھی حضرت شاہد دلہ صاحب کے گرد لوگوں کا ہجوم کھینوں کی طرت رہتا تھا۔

## حضرت شاہ دولہ صاحب کی زندگی کا ایک اور واقعہ

حضرت والد صاحب نے سنایا تھا کہ کوہاٹ کی طرف کے ایک بزرگ بابا دودا حقانی حضرت شاہ دولہ کے ہم عصر تھے۔ بابا دودا حقانی اپنے گھر سے پنجاب کے فقروں کا سزا کرنے کے ارادے سے نکلے۔ آپ شیر پر سوار تھے اور آپ کے ہاتھ میں اڑوٹا کا کوڑا تھا۔ جہاں جاتے جاتے لبتی والے فقیر سے اپنے شیر کے لئے گائے اور اڑوٹے کے لئے مرعی کا مطالبہ کرتے۔ ہوتے ہوتے جب شہر گجرات پہنچے جو حضرت شاہ دولہ کا مسکن تھا۔ تو حضرت کو کہلا بھیا کہ میرے شیر کے لئے گائے اور اڑوٹے کے لئے مرعی بھیج دو۔ آپ نے فرمایا کہ انتظام کر دیا گیا ہے۔ فلاں کمرے میں گائے اور فلاں میں مرعی موجود ہے۔ ان سے کہو کہ رات کو اپنا شیر اور اڑوٹا ان کمروں میں بھیج دیں۔ چنانچہ دودا حقانی صاوتی رات کو شیر گائے والے کمرے میں بھیج دیا۔ اور اڑوٹا مرعی والے کمرے میں چھوڑ دیا۔ اور پھر صبح دیکھا تو شیر کو گائے اور اڑوٹے کو مرعی کھا چکی تھی۔ یعنی وہ دونوں غائب تھے اور گائے اور مرعی موجود تھیں۔ یہ دیکھ کر دودا حقانی کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ کیونکہ وہ تو پنجاب کے اولیاء کو فتح کرنے نکلے تھے۔ آخر حضرت شاہ دولہ صاحب کی خدمت میں معذرت کرنے اور معافی مانگنے پہنچے۔ آپ نے فرمایا تمہاری موت کا وقت آ پہنچا ہے اب سبلی سے اپنے گھر پہنچ کر مرو۔ چنانچہ دودا حقانی صاحب گھر پہنچے تو انتقال ہو گیا۔

حضرت والد صاحب (جو کہ آواں شریف کے حضرت شاہ دولہ صاحب اور شاہ دولہ صاحب کے شیدائی تھے) نے ایک دفعہ سنایا کہ حضرت شاہ دولہ صاحب کی خدمت میں اس وقت کے کوئی عالم پاپیر باہر سے حاضر ہو کر کہنے لگے کہ حضرت حج کرنے جانا چاہیے۔ اور پھر لگے حج کے فضائل بیان کرنے۔ حضرت شاہ دولہ صاحب یہ سب کچھ سنتے رہے۔ اور وہ عالم

جب اپنے بیان کے بعد خاموش ہوئے۔ تو حضرت شاہ دولہ صاحب نے اپنا عصا تھاما  
گدڑی اٹھائی اور اٹھ کھڑے ہوئے۔ اور فرمایا چلو مولوی صاحب حج کرنے چلیں  
عرض کیا حضور ابھی تو میں نے تیاری نہیں کی۔ گھر میں کسی کو نہیں بتایا۔ فرمایا  
مولوی صاحب باتیں تو اتنی کر رہے تھے۔ اور اب سوچ میں پڑ گئے ہو۔ بھلا فقیر کو  
ان تیاریوں سے کیا تعلق ہے۔

حضرت شاہ دولہ صاحب کو دریائی بھی کہا جاتا ہے اور اس کی وجہ حضرت  
والد صاحب نے یہ بتائی تھی کہ چونکہ حضرت شاہ دولہ صاحب بارہ یا چودہ سال دریائے  
چناب کے اندر رہے تھے۔ اس لئے آپ کو دریائی کہا جاتا ہے۔ (انتہی)

## حضرت غازی عبد اللہ المعروف بہ پیر شاہ غازی

### دمڑی والی سرکار

حضرت اسد العساکر والمغازی شیر خدا پیرے شاہ غازی عبد اللہ رحمۃ اللہ  
علیہ حافظ محمد حفیظ خان کے دوسرے فرزند تھے۔ اور حافظ محمد حفیظ صاحب حضرت قاضی  
غریب نواز آدان شریف کے ننگر واوا یعنی حضور غریب نواز کے پڑاوا غلام محمد صاحب  
کے والد ماجد حافظ محمد محفوظ صاحب کے بھائی تھے۔ اور یوں حضرت بابا پیرے شاہ  
غازی قلندر دمڑی والی سرکار (کھڑی شریف) کو حضرت قاضی صاحب غریب نواز  
(آدان شریف) کا قبا محب لکھا جاتا ہے۔ شجرہ نسب سے یہ بات واضح ہے۔ حضرت  
صاحب آدان شریف کا شجرہ نسب کتاب مقامات محمود کے شروع میں لکھا ہے۔  
حضرت بابا پیرے شاہ غازی قلندر کھڑی شریف والے موضع ٹھٹھہ موسیٰ میں پیدا  
ہوئے اور ایک عرصہ تک یہیں رہے۔ حضرت صاحب آدان شریف قدس سرہ فرماتے  
ہیں کہ حضور غازی قلندر موصوف ہمارے اوج کبریا و شہباز سماء اعلیٰ تھے۔ آپ  
کے وجود مبارک سے دو دمان عالی کے تمام نخل و درخت میوہ در اور سب خارزار گلزار

ہو گئے۔ آپ کی تمام عمر مجاہدات شاقہ میں گزری اور اذنیال الہی سے صاحبِ عطاء نے  
 بیکراں اور ہر سپہر لاکھوں سوئے۔ جب آپ پیدا ہوئے تو آپ کے جد امجد حافظ  
 محمد تمیل صاحب بقید حیات تھے۔ انہوں نے آپ کے سیمائے سعادت کو دیکھ کر آپ  
 کی والدہ ماجدہ سے فرمایا۔ ”اسے بی بی یہ تمہارا مہمان عزیز ایک صاحبِ سلاح  
 و مرد جنگی ہے۔ اس کی تربیت و پرورش کا بہت خیال رکھنا۔ ذرا سا بھی رنج اس سے  
 نہ پہنچے۔ یہ اللہ یا اس سے کچھ قبل کا واقعہ ہے۔ بچپن ہی سے آپ پر ایک بذی کیفیت  
 غالب تھی۔ ایام صبا کا ذکر ہے۔ کہ ایک روز ایک سکھ رئیس لباسِ فاخرہ پہنے ہوئے  
 گھوڑے پر سوار کہیں جا رہا تھا۔ راہ میں آپ سے ملاقات ہوئی۔ آپ نے اس کی ریشمی  
 چادر دیکھ کر فرمایا۔ ”یہ سلار اچھے دے۔“ (سلار اکھڑی کا بنا ہوا ایک موٹا کپڑا  
 ہوتا ہے۔ جس میں سیاہ، زرد اور سرخ دھاریاں ہوتی تھیں۔ اور عزیز لوگ بالعموم  
 زیبائش کے لئے استعمال کرتے تھے) اس شخص کو یہ کلمہ حقارت آمیز معلوم ہوا۔  
 اور ترش رویہ کر کہا۔ ”مسلمانا دان“ یہ کہہ کر اس نے چھڑی آپ کی پنڈلی پر ماری۔  
 ابھی وہ چند ہی قدم گیا تھا۔ کہ اس کا گھوڑا گر پڑا۔ اور اس کی پنڈلی دو ٹکڑے  
 ہو گئی۔ وہ گھوڑے سے اترا اور آپ کو تلاش کرتا بھرا نگر آپ نہ ملے۔ حضرت  
 قاضی صاحب (آدان شریف) فرماتے ہیں کہ بچپن کے ہی زمانہ میں آپ پر حال اس قدر غالب  
 تھا۔ کہ تھوڑے بہت یعنی کم دہش میں امتیاز کم کرتے تھے۔ یعنی اگر والدہ ماجدہ  
 کو مکان کی مرمت کے لئے کچھ مٹی کی ضرورت ہوتی تو آپ سے کہتیں ”میاں عبداللہ  
 تمہاری روٹی کیسے پکیگی۔ ہمارے بچوں لے لوٹ گئے ہیں تو آپ اتنی مٹی لاتے۔ کہ  
 ڈھیر لگ جاتا اور مکان کی مرمت کے لئے کافی ہوتا۔ پھر آپ اپنی والدہ سے پوچھتے  
 ”ماؤ بس“ یعنی اتنا جان یہ مٹی چولہوں کی مرمت کے لئے کافی ہے۔ یا اور لاؤں  
 والدہ سن کر فرماتیں بس کافی ہے۔ یا اگر روٹیاں پکانے کے لئے ایندھن مطلوب ہوتا  
 تو والدہ کہتیں ”میاں عبداللہ گھر میں ایندھن نہیں ہے۔ تمہاری روٹی کس طرح پکیگی  
 یہ سن کر آپ اتنا ایندھن لاتے جو کئی ایام کے لئے کافی ہوتا۔ اور جب والدہ کہتیں کہ یہ

کافی ہے تو جب کام ختم کرتے آپ کے ایک بڑے بھائی تھے۔ جن کا نام فیض بخش تھا۔ گھر اور باہر کا تمام دنیاوی کاروبار انہیں کے سپرد تھا۔ ایک دن والد ماجد کا فیض بخش صاحب کے کپڑے دھو کر سو کھنے کو پھیلائے۔ حضرت نے جب دیکھا۔ تو پوچھا یہ کپڑے کس کے ہیں۔ ماں نے کہا تمہارے بڑے بھائی کے۔ یہ سن کر آپ کو جذبہ آیا اور اپنی چادر اتار کر بھاڑنا شروع کیا اور ایک ٹکڑا ایک بہن کی طرف پھینکا اور بقیہ دوسری بہن کی طرف پھینکی۔ ماں کو یہ دیکھ کر غصہ آیا اور کہہ دیا ہائے میاں عبد اللہ تیرا ناس ہو دے، آپ نے جو اب کہا میرا نہیں تیرا ناس ہو اور رشتہ داروں میں سے ایک ایک کا نام لے کر ایک ایک بلا کا نام لیا۔ اور اپنے بڑے بھائی فیض بخش کی طرف اشارہ کر کے فرمایا۔ کہ یہ نیجا جسے تو ناز و نعمت سے پال رہی ہے۔ گیارہ زخم کھا کر مرے گا۔ اس گفتگو کے بعد ہی اتفاقاً ایک آندھی آئی اور آپ اس اندھیر میں کہیں چلے گئے کہتے ہیں کہ آپ پر شاہ (گجرات اور آدان شریف کے درمیان ایک بستی ہے) کے نالہ ڈلی پر پہنچے اور وہیں قیام فرمایا۔ وہاں ایک عورت آپ کے کھانے کا اہتمام کرتی تھی اس کے گھر اولاد نہ تھی۔ وہ بار بار عرض کرتی تھی۔ کہ آپ دعا فرمائیں کہ میرے گھر بچہ پیدا ہو۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا شرط یہ ہے کہ اس بچہ کو میں اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ وہ راضی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے ایک بچہ دیا جس کا نام دین محمد تھا۔ جب وہ بڑا ہو تو آپ اسے ہمراہ لے گئے۔ اور ادھر ادھر دورہ کرتے کراتے دریائے جہلم کے پاس علاقہ کھڑی ضلع میرپور (آزاد کشمیر) میں سکونت اختیار فرمائی اور وہیں بقیہ عمر گزار دی۔ (مقامات محمود ص ۲۵-۲۶)

حصنور کے حالات کے بیان میں حضرت میاں محمد بخش صاحب نے کتاب

علیہ غلبہ حال وہ کیفیت ہے جس میں کسی کو اپنی طرف یا مخلوق کی طرف التفات نہ رہے اور بندہ اپنی صفات سے فانی اور قائم بحق ہو۔ یہ جذبہ کہلاتا ہے۔ اور حال وہ شے ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندہ کے قلب پر وارد ہوتا ہے۔ مثلاً طرب، فہم و لبط، شوق و ذوق وغیرہ۔



بوستان قلندری میں لکھا ہے کہ جناب پیر پیر شاہ غازی قلندر کا سلسلہ مریدی خانقاہ عالیہ سے اس طرح ملتا ہے۔ کہ آپ سید محمد امیر بالا پیر کے مرید تھے۔ اور وہ فرزند مرید و سجادہ نشین حضرت سید محمد مقیم ساکن حجرہ شریف کے۔ اور وہ خلیفہ و مرید حضرت سید جمال اللہ حیات المیر زندہ پیر کے اور وہ مرید حضرت قطب الاقطاب، فرید اللہ جناب مالک رجا ب سید السادات، غوث صمدانی۔ محبوب سبحانی۔ جناب شیخ المشائخ پیران غوث الاعظم پیر بغداد کے، اور حضرت غازی قلندر پیر و مڑی والا کو حضرت خضر علیہ السلام سے نسبت باطنی تھی۔ اور ان کی صحبت سے بے شمار فیوضات حاصل ہو چکی تھیں۔ چنانچہ ایک روز کنارہ دریا پر بیٹھ کر تلاوت قرآن شریف کر رہے تھے۔ ناگاہ بھرت لگائی اور نعرہ لگا کر مع قرآن شریف دریا میں غائب ہو گئے۔ متعلقین اور مرید باصفانے دریا میں غوطہ لگا کر بہت تلاش کیا۔ لیکن درمقصود ہاتھ نہ آیا۔ ناچار پھر ارجمند واپس آئے۔ لیکن اس واقعہ کو اسرار باطنی سمجھ کر صبر کیا۔ حضور کے محبت لوگوں کو اس مقام سے دلچسپی تھی۔ جہاں پر آپ دریا میں غائب ہوئے تھے۔ قریباً روزمرہ وہاں آمدورفت رکھتے تھے۔ قریباً بارہ سال کے بعد ایک روز اسی وقت وہی مقام وہی جگہ جس جگہ سے آپ غائب ہوئے تھے۔ اسی وضع سے وہی قرآن شریف ہاتھ میں لئے ہوئے دریا سے برآمد ہوئے۔ جسم مبارک مع قرآن شریف بالکل خشک تھا۔ حاضرین نے آپ کو شناخت کیا اور قد موسیٰ کی۔ حاضرین حیران تھے۔ آپ نے فرمایا کہ اتنا عرصہ ہم خضر علیہ السلام کے یہاں تھے۔ (بوستان قلندری ترجمہ اردو ص ۱۳)

حضور و مڑی والی سرکار کا مقام بہت بلند ہے۔ ناچیز پر جو انگشتان ہوا و ہوا یہ کہ حضور موصوف دربار غوث شیر میں سیدنا غوث الاعظم کی بازگاہ عالیہ میں دربان مقر ہیں کہ لوگوں کو عرصیاں آپ کی بازگاہ میں پیش کرتے ہیں۔

کتاب بوستان قلندری میں حضرت میاں صاحب نے فرمایا ہے۔ کہ حضرت غازی قلندر کسی بھی وقت جوش قلب اور وجد کی حالت میں بڑے زور سے نعرہ مارتے اور اللہ کا نام لے کر تکبیر کہتے تھے اس وقت بشیر مثل آپ کی آواز ہوتی۔ ایک مرتبہ موضع دینہ کے

جب بوڑھا جنگل (ایک لہتی کا نام ہے) کے پہاڑ میں رات کو گشت کرتے ہوئے زود سے  
 دوازہ بند پکارا کہ "مارو مارو دمت جانے دو" حضرت تو روئے زمیں پر تھکن فرماتے  
 ہوئے خدا جانے کہاں کی بات کر رہے تھے۔ مگر اتفاق سے چوروں کا ایک گروہ جو کسی  
 رات سے آ رہا تھا۔ آپ کی آواز سن کر ایک طرف سے حملہ آور ہوئے اور حضور کے تن اظہر  
 مخرج کیا۔ صبح لوگوں نے آپ کو اس حالت میں دیکھ کر امنوس کے ساتھ اٹھا کر  
 بادی میں لائے اور علاج معالجہ کیا۔ اور زخموں کو ٹانگے لگائے۔ مگر جب آپ بدستور  
 جس قلبی سے لغزہ اٹھا کر پکارتے تو زخموں کے ٹانگے ٹوٹ جاتے۔ اطرا ن سے  
 نیت مندوں کا مجمع کثیر آپ کو دیکھنے خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ اور سب نے  
 آپ کے پروردہ دین محمد صاحب موصوف کو جو بمقام کھڑی شریف رہائش پذیر تھے  
 اطلاع دی جو کہ حضور غازی قلندر کے نہایت عزیز و مقرب خلیفہ تھے۔ بابا دین محمد  
 صاحب کی آمد پر سرکار غازی قلندر نے ان سے فرمایا کہ مجھے تو بوڑھا جنگل پسند ہے  
 تمہاری خوشی و پسند کو اپنی رضا پر ترجیح دیتا ہوں۔ یاد رکھو اگر بوڑھا جنگل میں  
 مزار ہوگا۔ تو شاہان دہلی اور کابل تمہارے سلام کو حاضر ہوں گے۔ اور تم  
 کھاؤ گے۔ اور زری باولا ہنڈاؤ گے۔ ہر عہد بازار اڑاؤ گے۔ اور اگر کھڑی چک  
 کرے رکھو گے تو دال روٹی کا۔ کبھی مہانوں کو سیر کرو گے اور پیٹ بھر کر کھلاؤ  
 ۔ اور کبھی پیٹ بھر کر نہ کھلا سکو گے۔ یہ دوسرے دنہ منافقین کا ہے یہ فقیر کبھی  
 نہیں رہے گا اور کبھی نہ رہے گا۔ بابا دین محمد صاحب چونکہ تارک الدنیا زاہد و عابد  
 و شفیق تھے۔ مال و اسباب دنیوی کی آپ کی نگاہ میں کچھ قدر نہ تھی۔ حضور کے مزار  
 کے واسطے یہی مقام کھڑی کا پسند کیا۔ جس جگہ آپ کا مزار پڑ رہا ہے۔ اس سرزمین  
 کا ایک بڑا بڑا باغ تھا۔ ہر قسم کے درخت سرسبز یہاں تھے۔ حضور کو کجالت جیتا  
 لائے آئے۔ پھر لیلیۃ القدر کی رات کو آپ کا وصال ہوا۔

آپ کی تاریخ وصال میں حضرت میاں صاحب نے بوستان قلندری میں فرمایا

ازاں سال دیرینہ بے نشان  
دل من میں گفت برگو تاہ  
خبر جھٹتے گاہ بگاہ از کساں  
زہے پیر مردان حق پیر شاہ

۱۱۶۳ھ آپ کا سن وصال ہے

بوستان قلندری، میں حضرت میاں صاحب نے لکھا ہے کہ آپ کو حضرت  
عوث الاعظم پر بغداد سے روحانی نسبت تھی۔ براہ کشف و رہار عوثیہ سے ارشاد  
ہوا کہ ایک لاکھ سو چالیس وقت عقیدت مند مخلص اطراف شہر اور دیہات سے  
آپ کے واسطے نذر و نیاز مان کر اس کے ذریعہ خداوند تعالیٰ سے اپنی حاجات طلب  
کیا کریں گے۔ اور مقصود ان کے حاصل ہوں گے۔ عرض کیا مال دنیا سے میرے  
خلفار و مریدین عیش پرست ہو کر اصلی مقصود سے بر طرف ہو جائیں گے اس سے کم  
کیا جائے۔ دوبارہ فرمان ہوا کہ سوال لاکھ دہری روزمرہ خدا کے نام پر آپ کے  
مخلص نیاز نذر دیں گے۔ جس کا ثواب تا قیامت آپ کی روح کو ملتا رہے گا۔

## حضرت میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ ٹھٹھی شریف

حضرت میاں صاحب کا شجرہ نسب یہ ہے۔

حضرت خواجہ دین محمد صاحب۔ مرید و خلیفہ شیر بشیر ولایت بابا پیر شاہ  
غازی۔ ان کے صاحبزادہ حضرت میاں جیون دلی۔ اور ان کے صاحبزادہ حضرت میاں  
شمس الدین اور میاں شمس الدین کے تین فرزند تھے۔ بڑے میاں بہاول بخش درمیانے  
حضرت میاں محمد بخش مصنف سین الملوک اور صاحبزادہ خورد میاں علی بخش صاحب۔  
حضرت میاں محمد بخش کا سن پیدائش ۱۲۴۶ھ مطابق ۱۸۲۶ء ہے۔ آپ نے عرصہ  
دراز تک ریاضت و عبادت فرمائی ہے۔ اور بابا پیر شاہ غازی قلندر کے مزار  
اقدس پر اپنی ڈاڑھی مبارکہ سے جھاڑ دیتے رہے ہیں۔ اور تمام عمر حضرت موصوف  
کے مزار کی طرف پشت نہیں کی۔ سنا ہے کہ حضرت قاضی صاحب آوان شریف کی خدمت

جب شریف لے جاتے تھے۔ تو تین میل جاتے جوتیاں اتار لیتے تھے۔ اور پھر  
 پھر تین میل تک آواں شریف کی بستی کی طرف پیٹھ نہیں کرتے تھے۔ حضور قاضی  
 صاحب عزیز نواز نے آپ کے بارے میں فرمایا تھا کہ ادب کی حد میاں صاحب پر  
 تم ہو گئی ہے۔ آپ وقت کے ابدال تھے۔ آپ کے مفصل حالات سیف الملوک کے  
 مال یا آخر میں دئے گئے ہیں۔ آپ پندرہ<sup>۱۵</sup> کتابوں کے مصنف ہیں۔ آپ نے تمام عمر  
 ہادی نہیں کی۔ آپ کی تاریخ وصال سات ماہ ذوالحجہ ۱۳۲۲ھ مطابق ۱۹۰۴ء اور  
 ہی تاریخ دس ماہ مانگھ ہے۔ اسی تاریخ کو حضرت کا عرس مزار مبارک پر  
 ٹری شریف میں ہر سال منعقد ہوتا ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگ شامل ہوتے  
 ہیں۔

اور حضرت بابا پیرے شاہ غازی قلندر کا عرس مبارک ہر سال چودھویں اور  
 چودھویں ماہ شعبان المعظم یعنی شب برات کو کھڑی شریف میں ہوتا ہے۔ مشہور  
 ہے کہ یہی آپ کی تاریخ وصال ہے۔ اور وہ جو حضرت میاں صاحب نے بوستان قلندری  
 آپ کی تاریخ وصال لیلتہ القدر لکھی ہے۔ ممکن ہے کہ اس سے یہی شب قدر  
 شب برات مراد ہو۔ کیونکہ شب قدر اور لیلتہ القدر کے معنی ایک ہی ہیں۔ شب  
 ہی میں اور لیلہ عربی میں رات ہی کو کہتے ہیں۔ حضرت بابا پیرے شاہ غازی کا  
 کھڑی شریف میں قضاے حاجات کے لئے اکسیر ہے۔

حضرت صاحب سوات علیہ الرحمۃ۔ اور حضرت بابا پیرے شاہ غازی رحمۃ  
 علیہ۔ اور حضرت شاہدولہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت قاضی صاحب  
 جب نواز آواں شریف رحمۃ اللہ علیہ کے مشائخ میں سے تھے۔ اور یوں بواسطہ  
 عزت عزیز نواز کے ہمارے والد ماجد صاحب کے بھی مشائخ ہوتے ہیں۔ اس لئے  
 کا تذکرہ اس کتاب میں کہ جس میں اصل تذکرہ اپنے والد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ  
 کا مقصود ہے۔ بسلسلہ مشائخ ان بزرگوں کا تذکرہ بھی ضروری تھا۔ اس لئے  
 سے ذکر خیر ان بزرگوں کا آگیا۔

# حضرت قاضی صاحب عزیز نواز آوان شریف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خلفاء عظام

خلفاء میں سے حضرت صاحب جزادہ محبوب عالم صاحب مدظلہ العالی کا اسم گرامی سر  
فہرست ہے۔ ان کے علم و فضل و فقر کے سامنے بڑے بڑے علماء اور فقراء کے  
سر جھکتے ہیں۔ آپ کی طبیعت کا استغناء و بہت مشہور ہے۔ سنگیوں نے بالائے  
ان کو سجادہ نشین مقرر کیا۔ مگر وہ عام دستور کے مطابق نہ سجادہ بچھا کر کبھی بیٹھے  
ہیں۔ نہ خلیفہ یا سجادہ نشین کہنا ناپسند کرتے ہیں۔ کوئی اپنے عقیدہ میں ان کو حضرت  
قاضی صاحب کا عین سمجھتا ہے تو سمجھتا رہے۔ ان کے نزدیک ایسی مصطلحات  
قابل التفات ہی نہیں۔ اور کوئی عوام سے خاص نیاز مندی کی حرکات دکھائے  
تو ڈانٹ دیتے ہیں۔ وہ یہی پرچار کرتے رہتے ہیں کہ جیسا میں سنگی و لیسے اور سب ہیں  
حضور قبلہ عالم عزیز نواز کے دربار میں میرے تعلقات و حقوق کسی سے زیادہ  
نہیں۔ یہ آپ کی کمال انگساری ہے۔

آپ بہت بڑے عالم، فاضل، مفہم، محدث ہیں۔ جب تک نظر صحیح رہی ہمیشہ  
مطالعہ کتب فرماتے رہے۔ مطالعہ میں اکثر تفسیر و حدیث کی کتابیں رہتی تھیں۔ حضرت  
والد صاحب قاضی محمد عبدالسبحان صاحب فرمایا کرتے تھے۔ کہ حضرت صاحب جزادہ  
قبلہ علم ظاہری و باطنی دونوں میں بہت بلند مقام رکھتے ہیں۔ مگر حضور صاحب جزادہ  
نے کبھی اپنے فقر کو ظاہر نہیں فرمایا۔ اور نہ ہی کبھی فقری کی بات آپ کی زبان مبارک  
پر آئی۔ حضرت قاضی صاحب کے خلیفہ قبلہ عالم حضور سائیں چپ صاحب رحمہ  
اللہ علیہ نے حضور صاحب جزادہ صاحب قبلہ کے متعلق جناب غلام سرور خان آن کھلا  
سے فرمایا تھا بھائی سرور خان اگر تم حضور صاحب جزادہ صاحب کو اس علاقہ میں  
آؤ تو لاکھوں روحوں کو فائدہ پہنچ جائے۔ یہ لاکھوں روحوں کو فائدہ پہنچنے کی بار

یہی خصوصی توجہ سے سمجھنے کے لائق ہے۔ حضرت صاحبزادہ صاحب کی علمی گفتگو بہت گہری ہوتی ہے۔ ایک دفعہ فقیرنا چیز ابو الفتح غلام محمود مؤلف حالات کی موجودگی میں مہرہ شریف دہرات میں اپنی قیام گاہ پر فرمایا کہ "ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون۔ آلا یہ کا مشہور ترجمہ یہ کیا جاتا ہے۔ کہ نہیں پیدا کیا ہم نے جنوں اور انسانوں کو مگر اس لئے کہ وہ عبادت کریں۔ مگر میرے نزدیک ترجمہ یہ ہے کہ "نہیں پیدا کیا ہم نے جنوں اور انسانوں کو مگر تاکہ وہ عبد یعنی بندہ بن کر رہیں" (فرمایا) انسان اگر یہ سمجھے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں میرا آقا و مولیٰ وہی ہے۔ تو پھر مسجد میں ہو یا بازار میں دکان پر بیٹھا ہو یا دفتر میں عدالت کی کرسی پر ہو یا عدالت کے صحن میں۔ خلوت میں ہو یا جلوت میں۔ وہ چونکہ بہر حال اللہ کا بندہ ہے۔ لہذا اس نے ہر وقت و حالت میں بندگی و عبودیت ہی کا اظہار کرنا ہے اور کسی طرح اور کسی وقت بھی وہ اپنے آقا کے حکم سے سر تابی کا مجاز نہیں ہے۔ انتہی بغرضیکہ حضور صاحبزادہ صاحب کی باتیں علمی جو اہر پارے ہوتے ہیں جو اس قابل ہوتے ہیں۔ کہ ان کو جمع کیا جائے اور قلمبند کیا جائے۔ تاکہ ایک جہان ان سے مستفید ہو۔ مگر افسوس کہ ایسا نہ ہو سکا۔

حضور طبیعت کے بہت غیور واقع ہوئے ہیں۔ کسی کے مکان پر خواہ وہ سنگی ہی کیوں نہ ہو جانا پسند نہیں کرتے۔ اور ویسے حضور قبلہ عالم عزیز نواز رحمۃ اللہ علیہ کے سنگیوں کا بہت خیال رکھتے ہیں۔ یہ ناچیز (مؤلف ابو الفتح) جب کبھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا بہت التفات اور ملاحظت سے پیش آتے ہیں۔ اور خصوصی کرم فرماتے ہیں۔ حضور والد صاحب قاضی محمد عبدالسبحان رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد جب آپ کی خدمت میں حاضری ہو تو فرمایا کرتے ہیں۔ بھائی تم قاضی عبدالسبحان کے بیٹے ہو۔ مجھے بہت پیارے لگتے ہو۔ قاضی عبدالسبحان بہت خاص سنگیوں میں سے تھے۔

حضرت صاحبزادہ صاحب کا اسم گرامی محبوب عالم ہے۔ آپ کے والد صاحب کا اسم گرامی میاں محمد مسعود تھا۔ حضرت صاحبزادہ صاحب محبوب عالم حضرت قاضی صاحب عزیز نواز کے حقیقی بھتیجے ہیں۔ آپ کی پیدائش ۱۳۰۹ھ میں بمقام آدان شریف

ہوئی۔ آپ ابھی شیرخوار ہی تھے کہ والدہ کا سایہ اٹھ گیا۔ اس لئے آپ کی پرورش عزیز نواز کی اہلیہ محترمہ کے سایہ عاطفت میں ہوئی۔ چونکہ میاں صاحب موصوف نے دوسری شادی کر لی تھی۔ اس لئے لازماً حضرت کی توجہ مبارک آپ کے لئے مخصوص ہو گئی۔ اور حضرت صاحب نے آپ کی تعلیم و تربیت اپنا ہی بیٹا بنا کر کی۔ حضرت صاحب نے آپ کو خود بھی پڑھایا۔ اور آپ کی تعلیم کے لئے بہترین اساتذہ بھی رکھے۔ مثلاً مولوی عبدالرحمن صاحب لہندی سرگال، حضور صاحبزادہ صاحب پہلے ہر سال ۱۶ ماہ بیساکھ کو آدان شریف میں حضرت قاضی صاحب عزیز نواز کا عرس منعقد کیا کرتے تھے۔ جس میں شمولیت کے لئے دور دراز سے سنگی جمع ہوا کرتے تھے۔ یہ ناچیز (مؤلف ابوالفتح غلام محمود) بھی اپنے والد صاحب کے ہمراہ ہزارہ سے آدان شریف عرس کے موقعہ پر حاضری دیتا رہا ہے۔ یہ عرس مبارک کئی سال جاری رہا۔ آخر حضرت صاحبزادہ صاحب نے اس خیال سے بند کر دیا۔ کہ یہاں عرس کے موقعہ پر ایسی نئی نئی جوان عورتیں آتی ہیں۔ جن کا حضور قاضی صاحب عزیز نواز کے ساتھ تعلق مریدی نہیں ہے۔ اور پھر آدان شریف کے اندر بے پردہ ادھر ادھر گھومتی پھرتی ہیں۔ اور یہ صورت حال میرے لئے ناقابل برداشت ہے۔

سبحان اللہ! ایسے لوگ آج بھی موجود ہیں۔ جن لوگوں کے ہجوم و اجتماع اور اپنی شیرینی و شکرانے کی کثرت سے کوئی عرض نہیں۔ وہ تو صرف اتباع شرع کا مظاہرہ دیکھنے کے متمنی ہیں۔ میرے خیال میں آج کل کی اس دنیا میں حضور صاحبزادہ صاحب کا یہ بہت بڑا کارنامہ ہے۔ حضور صاحبزادہ صاحب خود کامل طور پر متبع شرع شریف ہیں۔ آپ ۱۹۶۶ء میں حج بیت اللہ شریف اور زیارت روضہ بنوی سے اس طرح بہرہ ور ہوئے۔ کہ جاتے آتے متوسلین و متعلقین کو اطلاع نہیں دی۔ آپ شہرت کو ہرگز پسند نہیں کرتے۔

آپ کی عمر شریف (جو پورے طور پر اتباع شرع میں گذری ہے) ۸۰ سال سے متجاوز ہے۔ اب آنکھوں کی بینائی بھی بہت ہی کمزور ہو گئی ہے۔ پھر بھی نماز فرائض تو فرما لیتے ہیں۔

را اقل تک کا خاص اہتمام ہوتا ہے۔ اور جو سنگی حاضر در دولت ہوتے ہیں۔ ان کی  
 کوئی بھی فرماتے ہیں۔ آپ کے صاحبزادہ حضرت منظر صاحب بہت وسیع اخلاق کے  
 مالک ہیں۔ سنگیوں کا خاص خیال رکھتے ہیں۔ اور جناب منظر صاحب کے غالباً تین صاحبزادے  
 ہیں جو زیر تعلیم ہیں۔

## ۱۲ حضرت مستری احمد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ

مستری احمد بخش صاحب ساکن رتہ امرال مضمولہ راو لپنڈی پہلے  
 لیوا ائڈ اور ان کی کرامتوں کے قائل نہ تھے۔ لالہ موسیٰ میں پہلی مرتبہ  
 حضور قاضی عزیز نواز صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی قدمبوسی حاصل ہوئی  
 ر آنکھوں پر سے پردہ اٹھا تو آپ کے مرید ہوئے اور بڑے مرتبہ پر پہنچے  
 ان میں عشق الہی کی اس قدر گرمی تھی کہ باطنی راز کی بعض باتیں بھی ظاہر فرما  
 یا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضور عزیز نواز سے اس کی شکایت کی تو  
 آپ نے فرمایا کہ "ابھی بات چھپانا چاہو تو عشق کی گرمی سے کھٹ جاؤ گے"  
 مولف حالات کے والد ماجد قدس سرہ نے حضرت مستری صاحب کی  
 خدمت میں بہت آتے اور بیٹھتے رہے ہیں آپ بیان کرتے تھے کہ ایک مرتبہ  
 مستری صاحب نے مجلس میں سے ایک لڑکے کو اپنے پاس بلا کر اس  
 کی پسلی کے اوپر سے قمیص اٹھا کر حاضرین کو ایک جگہ دکھائی جہاں اس کا  
 گوشت اکٹھا تھا اور گرہ کی کسی شکل پیدا ہو گئی تھی۔ پھر فرمایا کہ اس بچے  
 کا والد حضرت بابا قاسم صاحب موہڑہ شریف کامرید تھا۔ اور اس کے  
 ماں کوئی بچہ نہ تھا۔ ایک دفعہ مجھ سے اس بارے دعا کی درخواست کی  
 اور پھر میں نے خود حضرت صاحب موہڑہ شریف کے کہنے پر اس کو بیٹا دیا۔  
 اور پھر یہ ماں کے پیٹ میں گر چلا تھا۔ مگر میں نے دوڑ کر اس کو سنبھالا



اور گرہ لگادی تو یہ وہی گرہ ہے۔

حضور والد صاحب بیان کرتے تھے کہ آپ کئی مرتبہ فرمایا کرتے تھے کہ ابھی ابھی حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی سبز رنگ کی پالکی یہاں گزری ہے۔

آپ کے دیئے ہوئے تعویذات بہت کامیاب ثابت ہوتے تھے۔ آپ نے بڑی عمر پائی ہے۔ اور ۱۹۳۵ء میں وصال فرمایا ہے۔ حضور سائیں صاحب صاحب نے ان کے انتقال پر بہت افسوس فرمایا تھا، آپ کا مزار رتہ رتہ میں ہے۔ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔

## حضور سائیں چپ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ

آپ کا اصلی نام فیروز زوین تھا۔ اور عرف پہلے سائیں بسم اللہ اور بعد میں سائیں چپ تھا۔ آپ کھیری موٹی صنلج کیمبل پور کے رہنے والے تھے۔ حضور گرد اور تھے اور تحصیلداری کے امیدوار تھے۔ کہ سید و شہر جاتے ہوئے حضور قاضی صاحب عزیز نواز کا گزر جو اُس طرف سے تو آپ کی نگاہ جو اُن پر پڑی تو بس کھینچ لیا۔

آپ ہمیشہ خاموش رہتے تھے۔ طبیعت جذب کی طرف مائل تھی۔ طریق تھا۔ اور اکثر بے خودی سی آپ پر طاری رہتی تھی۔ حضور عزیز نواز عاشق زار اور بے حد ادب کرنے والے تھے۔ گرمی بدن میں اتنی تھی بوریہ بھگو کر بدن پر لپیٹ لیا کرتے تھے۔ اور بہروں کے اندر بیٹھے تھے۔ آپ اپنے وقت کے قطب تھے۔ کشف اور صفائی کا یہ عالم تھا کہ طبق کی کاٹنات میں ماضی، حال، مستقبل کا کوئی واقعہ بھی آپ کی نظر او جھل نہ تھا۔

حضرت والد صاحب اکثر آپ کی خدمت میں رہے۔ اور آپ کو حضرت

بے حد عقیدت تھی۔ حضور سائیں چپ صاحب کی خدمت میں پہنچنے  
 لے لوگوں کی حاجتیں پوری ہو جایا کرتی تھی۔ آپ نے پہلے چوہاہ تک  
 اور عزیز نواز کی گھوڑی چرائی۔ پھر آپ کے حکم سے موضع مو جلی میں  
 ہے۔ پھر علاقہ سرگودھا اور آخری عمر کھلابٹ ضلع ہزارہ میں گذاری۔  
 اپنے وقت کے بہت بڑے متصرف تھے آپ پہلے دور میں صرف نمک  
 پھر نمک اور لستی نوش فرماتے اور کھلابٹ کے زمانہ میں نمازی سیدزادی  
 سے ناخن پر آٹا کھوا کر پکواتے اور پھر اس کے چند لقمے تناول فرمایا کرتے  
 تھے۔ آپ کے پاس عورتوں کا آنا قطعاً ممنوع تھا۔ آپ حضرت قاضی صاحب  
 بی لوائے بڑے اور محبوب خلیفہ تھے۔ کسی اور مجلس میں انشاء اللہ ان  
 تفصیل حالات لکھوں گا۔

آپ کا انتقال آج سے تقریباً ۴۵ سال قبل ۱۰ ستمبر کو کھلابٹ ہی  
 ہووا۔ حضرت والد صاحب نے آپ کو غسل دیا اور نماز جنازہ پڑھائی۔  
 آپ اپنی وصیت کے مطابق دریائے دوڑ کے کنارے پہاڑی کے  
 موضع پنیا لہ کے قریب آرام فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے فضل  
 عزیز کو اپنی رحمت سے نوازے۔

حضور سائیں چپ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک ۱۰ ستمبر  
 ہر سال مزار مبارک پر ہوتا ہے۔

**حضرت ملا صاحب تیراہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حالات**  
 آپ کا اسم گرامی نیاز الدین اور عرف ملا تیراہی تھا۔ آپ قوم کے  
 تھے۔ اور بڑے والے حضرت کے مرید تھے۔ آپ کی خواہش تھی  
 حضور بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے۔ اور جب شہرت  
 کہ قاضی صاحب عزیز نواز آوان شریف کی خدمت اقدس میں پہنچے

تو سلام و مصافحہ سے پہلے آپ کو دیکھتے ہی حجاب اٹھ گیا۔ اور حضور  
بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی۔

آپ بڑے عالم اور صاحب عمل تھے۔ اور صاحب صحیح و سکر بزرگ  
تھے۔ ہمیشہ کوئی نہ کوئی طالب علم ساتھ رہتا تھا۔ آخر عمر میں حج  
بیت اللہ اور زیارت روضہ النور سے مشرف ہوئے۔ آپ حضرت  
قاسمی صاحب عزیز نواز کے بڑے خلیفہ تھے۔

حضرت والد صاحب ان کی خدمت میں بھی  
بہت رہے ہیں اور حضرت بابا صاحب تیرا ہی نے اپنی گڈری مبارکہ آپ کو  
مرحتہ زمانی تھی۔ جس کو آپ بطور تبرک اپنے پاس رکھا کرتے تھے۔  
حضرت بابا صاحب تیرا ہی پر تین مرتبہ عنایت پیش کی گئی تھی۔ مگر آپ نے  
محذرت کے ساتھ واپس کر دی تھی۔

آپ کا وصال حضور سائیں چپ صاحب کے چند سال بعد کھلا بیٹھی میں  
اور موضع پڈھانہ کے قریب پختہ سڑک سے تھوڑے ہی فاصلہ پر مزار بنا۔  
آپ ہی نے حضور قاسمی صاحب عزیز نواز اداں شریف کو غسل دیا اور  
ان کی نماز جنازہ پڑھائی تھی۔

اللہ کی رحمت ہو ان کے طفیل مجھ عزیز و نارسا پر۔ آپ کا عرس مبارک  
ہر سال مطابق تاسیخ وصال ۳ ماہ بھادوں کو مزار پر ہوتا ہے۔

## سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم

تصنیف :- ابو الفتح قاسمی غلام محمد مولوی فاضل، منشی فاضل

میں زندگی کے ہر قدم پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بتا دی گئی ہیں۔ ایسی

جامع کتاب آپ کے دیکھنے میں نہ آئی ہوگی

ملنے کا پتہ : کتب خانہ عنوشیہ مہریہ جی ٹی روڈ جاوہرہلم

# بقیہ حالاتِ زندگی حضرت مولانا محمد عنوث صاحب مرحوم

## المعروف بہ بڑے اجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ

۱۱) کہتے ہیں کہ ایک عورت نے شکایت کی کہ میرا لڑکا مجھے گالی دیتا ہے۔ اور میری نافرمانی پر کمر بستہ رہتا ہے۔ میری بات نہیں مانتا۔ حضرت کو یہ بات سن کر بہت غصہ آیا۔ فوری طور پر اس کو بلایا۔ جب وہ حاضر ہوا تو فرمایا او خبیث کیا تو اپنی ماں کو گالی دیتا ہے کیا تو نے اس کے حقوق کو بھلا دیا ہے۔ پھر حضرت نے اپنے ایک خادم سے فرمایا گھڑا پانی کا بھر لاؤ جب وہ لایا گیا تو اسے شخص مذکور کے پیٹ پر بندھوا دیا۔ پھر اس کو فرمایا اب تو چل پھر کر کام کاج بھی کر۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ آدمی اکتا گیا اور حضرت کی منتیں کرنے لگا کہ میں بے حد تنگ ہوں چل پھر نہیں سکتا پھر کبھی والدہ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ تب حضرت نے اسے چھوڑنے کو فرمایا۔

۱۲) صاحب موصوف نماز کے وقت جب گھر سے باہر نکلتے تو جتنے بے نماز راستے میں ملتے سب کو بزور مسجد میں ساتھ لے آتے۔ کسی کو انکار کی مجال نہ ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قدرتی رعب و دہشت بخشی تھی۔ کسی کو حضور کے آگے بولنے کی جرات نہ ہوتی۔ جب بے نماز آپ کو نکلتے دیکھتے تو فوری چھپنے کی کوشش کرتے۔

۱۳) حضرت مولانا محمد عنوث صاحب مرحوم صاف گوئی میں ضرب المثل اور بے مثال تھے۔ ایک دفعہ ایک شخص کو رمضان شریف میں کھانے دیکھا تو بے دھڑک فرمایا او بے دین تھی روزہ کھا رہا ہے۔ وہ کہنے لگا تجھے کیا تکلیف ہوئی کیا روزہ تیرا ہے یا خدا کا یہ اس نے انجان ہونے کی وجہ کہا۔ درنہ جاننے پہچاننے والے حضرت کا بے حد احترام کرتے تھے اور ڈرتے بھی تھے۔

حضرت مرحوم نے فرمایا خدا کا ہے سب ہی تو میں نے تجھے سختی سے روکا ہے۔ اگر میرا ہونا تو کوئی بات نہ تھی۔ اس جواب کا اس اجنبی پر کافی اثر ہوا پھر وہ ناام

ہو کر چلا گیا۔ یہ واقعہ مرحوم کے صاف گو اور بردبار ہونے کی نشاندہی کرتا ہے۔

۱۳) پڑداد صاحب مولانا محمد عیوب مرحوم سچ کہنے میں بڑے جری تھے۔ اس میں کسی کی طرف ڈاری یا لحاظ نہیں کرتے تھے۔ برسر عام بر ملا سچی بات کہہ دیتے تھے۔ ہمارے گاؤں رکھلاٹ کا بڑا رئیس۔ جس کا نام عبد اللہ خان تھا۔ یہ حضرت کا بے حد معتقد تھا۔ اپنے محلہ کی مسجد کو چھوڑ کر یہاں اس مسجد میں آکر ہر نماز حضرت کے پیچھے پڑھتا تھا۔ ایک دفعہ ظہر کی نماز پڑھنے آیا تو اس کے دھوکے کرتے کرتے جماعت کھڑی ہو گئی۔ نماز سے فراغت کے بعد وہ کہنے لگا۔ حضرت جی میں صرف آپ کے پیچھے کتنی تکلیف اٹھا کر نماز پڑھنے آتا ہوں۔ اگر آپ تھوڑی دیر ٹھہر جاتے تو کیا حرج تھا۔ حضرت پڑداد صاحب نے فرمایا نماز نہ تو تیری ہے اور نہ میری ہے۔ یہ تو خدا کی عبادت ہے۔ اس کی ادائیگی میں کسی کی رعایت نہیں ہو سکتی۔ اگر تو میرے پیچھے نماز پڑھنا چاہتا ہے تو مجھ سے پہلے آیا کر۔ حضرت کے اتنا فرمانے پر وہ بالکل خاموش ہو گیا اس کو یہ جرات نہ ہوئی کہ آگے کوئی بات کرے اور ان سے الجھے۔ باوجودیکہ وہ رئیس بڑا جری اور بے باک تھا۔ لوگ اس کے سامنے سانس نہیں لیتے تھے۔

۱۴) ادائی ریاست امب در بند میں یہ اسلامی کمزوری تھی کہ اس کے نکاح میں پوری درجن عورتیں تھیں۔ ایک دفعہ اس نے ریاست کے کسی ضروری مسئلہ کے حل کے لئے حضرت موصوف کو بلایا۔ وہ ایسا پیچیدہ مسئلہ تھا کہ اس کے حل کی کوئی صورت نہ تھی۔ حضرت جب اس کی قیام گاہ پر تشریف لے گئے تو نواب نے آپ کے کھانے کا انتظام کیا تو آپ نے فرمایا میں تیرے گھر کی کوئی چیز نہیں کھاؤں گا۔ اس نے عرض کی آپ مجھ سے کیوں نادمان ہیں۔ اگر میرے اندر کوئی نقص ہے تو آپ ارشاد فرمائیں تو میں اس کے ازالہ کی کوشش کروں گا۔ حضرت مرحوم نے فرمایا کہ اسلام نے چار تک عورتیں رکھنے کی اجازت دی ہے اور تیرے پاس اسلامی مقررہ تعداد سے زائد عورتیں ہیں۔ اگر ابھی تو چار عورتوں سے زائد عورتوں کو الگ کر دے تو ٹھیک ہے۔ ورنہ میں تجھ پر اسلام کی کھلی مخالفت کا فتویٰ رکھا کر جاؤں گا۔ اور لوگوں کو تیری بغاوت شمرے سے صاف طور پر آگاہ کر دوں گا۔ لہذا اللہ تعالیٰ سے ڈر اور اس کی

مخالفت سے باز آجیا۔ اور ابھی تو یہ کر شاید کل تجھے نہلت ہی نہ ملے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ تجھ پر انعام کیا ہے۔ اس کا شکر یہ ادا کر۔ دنیا کے ساز و سامان پر غور نہ کر بلکہ اپنی عاقبت کی فکر کر۔ اور قبر کی اندھیری کو یاد کر۔ وہاں اچھے اعمال کے بغیر کوئی کام نہ آئے گا۔ حضرت مرحوم کی اس موثر اور دل نشین تقریر نے اس کے دل پر گہرا اثر کیا اور وہ زار و زار رونے لگا۔ پھر اسی وقت گھر چلا گیا اور چار سے زائد عورتوں کو الگ کر دیا پھر آ کر حضرت کو اطلاع دی اور اللہ تعالیٰ سے اس کے لئے معافی مانگنے کی درخواست کی تو اب نے جن عورتوں کو الگ کیا تھا۔ حضرت نے اسی وقت ان کا انتظام کیا۔ یہ سب کچھ کر کے پھر کہیں آرام سے بیٹھے۔

پھر دوسرے روز ریاست کے جس کام کے لئے تشریف لے گئے تھے۔ اس کے حل میں مصروف ہوئے۔ یہ تھی حضرت مرحوم کی دینی خدمت اور اتباع شریعت کا جذبہ کہ جس کے اظہار بغیر آپ کو چین نہیں آتا تھا۔

۱۶) حضرت پڑدادا مولانا محمد عوث صاحب مرحوم بہت بڑے سرمایہ دار اور دولت مند تھے مگر آپ کو دنیا سے بالکل لگاؤ نہیں تھا۔ بالکل سادہ اور بے تکلف زندگی کو پسند کرتے تھے۔ آپ کے مکان کچے اور سادہ تھے۔ ایک بڑے رئیس کی بیوی کو آپ سے عقیدت تھی۔ ایک دفعہ اس نے بڑی عاجزی سے عرض کی کہ اگر اجازت ہو تو میں اپنے خرچ پر مکان بنوادوں۔ کیونکہ پرانے اور کچے مکان حضرت کے لائق نہیں۔ اس کے جواب میں فرمایا بیٹی قبر بچتہ ہوئی چاہیے۔ قیامت میں حال اچھا ہونا چاہیے۔ لہذا وہاں کی فکر زور مای ہے۔ میں دنیا میں سادگی پسند کرتا ہوں۔ اور صرف قوت لایوت پر قناعت کرتا ہوں۔ اور اسی کو سعادت سمجھتا ہوں۔

۱۷) حضرت مولانا محمد عوث مرحوم ہمیشہ رزق حلال کی تلاش کرتے تھے مہسوک ہر شنبہ روزی کے قریب تک نہ جاتے تھے۔ اسی وجہ سے گاؤں کے رئیسوں اور خاندانوں کے پیٹے اور تھنے لینے سے صاف انکار کر دیتے تھے۔ کئی دفعہ رئیسوں کی لونڈیاں خروٹ کے ٹوکڑے حضرت کی چوری سے گھر دے جاتیں۔ جب آپ کو علم ہو جاتا تو اسی وقت

واپس کرو پتا در فرماتے کہ میں ان لوگوں کی چیزیں نہیں لیتا۔

۱۸ حضرت مرحوم کے درس میں بے شمار طلبہ ہوتے تھے۔ یہاں تک سنا گیا کہ جنات بھی آپ کے حلقہٴ درس میں شریک ہوتے تھے۔ کہتے ہیں ایک دفعہ زمیندار آپ کی گندم صاف کر رہے تھے۔ کہ آپ کے درس میں پڑھنے والے ایک طالب علم جن نے لوگوں کی بے شمار گندم ادھر ادھر سے لاکر حضرت کی گندم میں ملا دی کہ جس کی وجہ سے گندم کا ایک بہت بڑا ڈھیر ہو گیا۔ کئی روز گندم گھرانے پر لگ گئے۔ جب آپ کو شبہ پیدا ہوا تو اس حلقہ کو بلا کر حقیقت حال دریافت کی۔ اس نے بتا دیا کہ میں نے ایسا کیا ہے۔ فرمایا تو نے ایسا کیوں کیا۔ اس نے کہا کہ میں نے چاہا کہ آپ کی گندم زیادہ ہوتا کہ آپ محوش ہوں۔ فرمایا تو نے میری حلال روزی میں حرام ملایا یہ تو نے میرے ساتھ بہت برا سلوک کیا۔ تجھے یہ حق نہیں تھا۔ لہذا میں حکم دیتا ہوں کہ تم نے جہاں سے غلہ لایا وہیں جا کر چھوڑ آؤ۔ چنانچہ وہ اسی وقت تعمیل ارشاد کرتے ہوئے جہاں جہاں سے غلہ لایا تھا وہیں جا کر چھوڑ آیا۔ پھر واپس آکر حضرت کو اطلاع دی کہ میں نے حضور کی مرضی کے مطابق کام کر دیا ہے۔ پھر آپ نے اس کو فرمایا چونکہ تو نے بہت ہی برا کام کیا تھا۔ جوشاگرد ہوتے ہوئے تیرے لائق نہ تھا۔ لہذا تو اسی وقت یہاں سے چلا جا۔ اس نے بہت مدت سماجت کی کہ میں پھر ایسا نہیں کروں گا۔ مجھے اپنے درس سے نہ نکالیں۔ لیکن حضرت نے اس کو نکال دیا۔

۱۹ حضرت پڑدادا مولانا محمد عنوث صاحب مرحوم مذہباً پکے سنی صنفی تھے۔ طریقہٴ اہل سنت کے بڑی سختی سے پابند تھے۔ بد عقیدہ لوگوں سے گریز کرتے تھے۔ وہابیوں سے آپ کو بڑی نفرت تھی۔ فرمایا کرتے تھے کہ یہ ہمارے زمانہ کے خارجی ہیں اور حدیث میں خارجیوں کو **ہُمُ الْكَلَابُ النَّارِ** فرمایا گیا ہے۔ آپ مولوی اسماعیل دہلوی کی رسوائی زمانہ کتاب تقویۃ الایمان کو تخریب الایمان و توہین الایمان کہا کرتے تھے۔

حضرت نے فارسی زبان میں اس کا نہایت نفیس رد لکھا ہے جو ہمارے کتب خانہ میں موجود ہے۔

۱۱۷ حضرت مولانا محمد عوث <sup>مہاجر</sup> مرحوم مستورات کو باپردہ رکھنے میں بے حد محتاط تھے۔ عورتیں رات کو آیا جایا کرتی تھیں۔ محرم رشتہ دار کے بغیر کسی دوسرے کو گھر نہیں لے دیتے تھے۔ ذی عقل بچوں کو بھی اندر نہیں جانے دیتے تھے۔ آزاد اور آوارہ لڑکوں کے اندر جانے پر پھل پابندی تھی۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ کے دروازہ پر ایک گھٹ (پھیرا) آیا۔ حضرت اس وقت اپنی بیٹھک میں تشریف فرما تھے۔ جب اس بھڑے نے اندر جانے کا ارادہ کیا تو آپ نے اسے اندر جانے سے روک دیا۔ اور فرمایا کہ ایسے شخص کو گانا اندر جاتا ہرگز روا نہیں۔ سالیوں کا بہنویوں سے پردہ تھا۔ ایک بھائی کی بیوی کا دوسرے بھائی سے پردہ تھا۔ آپ اپنے دامادوں کو باہر ہی ٹھہراتے تھے۔ ہمیں اندر جانے کی اجازت نہ تھی۔ ایک دفعہ آپ کا ایک داماد آیا۔ آپ سے اس کی لالچائی ہوئی۔ آپ نے اس کو کھانا کھلایا پھر پوچھا ٹھہرو گے یا نہیں اس نے عرض کی کہ میں واپس جاؤں گا۔ فرمایا اچھا جاؤ۔ آپ اس کو رخصت کر کے اپنے کونٹوں پر چلے گئے۔ پ کے چلے جانے کے بعد وہ پھر کسی کام کے لئے وہیں آکر ٹھہر گیا۔ جب آپ آئے تو کئے بھاد بیکہ کر بہت ناراض ہوئے اور فرمایا ابھی چلے جاؤ۔ پھر اسی وقت اس کو رخصت کر کے نماز کے لئے مسجدیں تشریف لے گئے۔

۱۱۸ ایک مرتبہ ایک غیر مقلد جو اپنے علاقہ کارٹیس اور حضرت کے ساتھ عقیدت رکھتا تھا مسجد میں نماز پڑھنے آیا اور حضرت بھی مسجد میں تشریف فرما تھے۔ جب اس نے سب مذہب فریح نماز پڑھنی شروع کی اور رفع یدین کرنے لگا تو آپ نے فرمایا نماز میں ہاتھوں کی چم کی دم کی طرح نہ ہلاؤ۔ نماز کے بعد اس نے عرض کی کہ آپ نے رفع یدین کو حجر کی طرح سے کیوں تشبیہ دی۔ کیا اس کا کوئی ثبوت ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ابو داؤد شریف نے کہا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا ہوگا کہ میں تمہیں حجر کی دم کی طرح ہاتھ ہلاتے دیکھ رہا ہوں۔ حضرت کی یہ بات سن کر وہ خاموش ہو گیا۔ اور شرمندگی کے ساتھ واپس چلا گیا۔ یہ بھی بعض لوگوں کی زبانی سنا گیا ہے۔ کہ حضرت نے اس کو مسجد سے نکال دیا اور وہ بہت دولت کے ساتھ مسجد سے نکالا گیا۔ یہ حضرت مرحوم کے



استقامت علیٰ مذہب کی دلیل ہے۔ کہ جس سے ثابت ہوتا ہے کہ مذہبی امور میں آپ کس سخت تھے۔ اور بلا ہجرت حق بات کہہ دیتے تھے۔

۱۱۲ جس زمانہ میں حضرت پردادا صاحب مولانا محمد غوث المعروف بہ بڑے امیر

ریاست بھوپال کے قاضی القضاة (چیف جج) تھے اسی زمانہ میں آپ نے والی ریاست کی لڑکی سے شادی کر لی تھی۔ کہ جس کا ساٹھ ہزار روپیہ ہر مقرر ہوا تھا۔ کہتے ہیں کہ آپ کی اس سے ایک لڑکی بھی پیدا ہوئی تھی۔ جو کچھ دنوں کے بعد وہی فوت ہو گئی۔ لخت کی دفات کے بعد حضرت کا دل اچھا ہو گیا۔ پھر شاہانہ شان و شوکت کے باوجود طبیعت اداس رہتی تھی کسی کام پر دل نہیں لگتا تھا۔ ہر وقت پریشان رہتے تھے۔ اسی دوران آپ نے یہ خواب دیکھا کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ پیغمبری جو دوسرے جو لوگوں میں گئے ہیں یہ کتنی حیرت انگیز بات ہے۔ آپ جب بیدار ہوئے تو اس کی یہ تعبیر فرمائی کہ مجارے بزرگ میرے یہاں رہنے پر خوش نہیں وہ مجھے وطن بلانا چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اد بھی کسی اسباب وطن کی طرف واپسی کے پیدا ہو گئے۔ جن کی بنا پر حضرت پردادا صاحب نے وطن اصلی کا رخ کیا۔

## اچھا سا کھتی

(معرفت النہی کے اسباق)

از۔ حضرت علامہ ابوالفتح غلام محمود صاحب محدث ہزاروی مدظلہ العالی

اس کتاب میں سبق آموز حکایات اور بزرگوں کے واقعات درج ہیں۔ نہایت دلچسپ قابل مطالعہ کتاب ہے۔

قیمت ایک روپیہ

صلنے کا پتہ۔ کتب خانہ غوثیہ پریس جی ٹی روڈ جادو ہاٹلم

۱۳۱ حضرت پُر داد مولانا محمد عوث صاحب کے زمانہ میں انگریزی راج کی تھی۔ چونکہ وہ مسلمان قوم پر حکومت کرنا چاہتے تھے اور چونکہ توں سے مسلمانوں کی دھاک بڑھتی ہوئی تھی تو وہ مسلمانوں پر راج کرنے کے لئے عہدہ راستہ سہوار کرنا چاہتے تھے۔ لہٰذا وہ مسلمانوں کے مذہبی پیشواؤں کو ہر طرح سے قابو کرنے کی فکر میں تھے اور سلسلہ میں وہ مال و دولت کا لالچ دے کر ان کو قابو کر رہے تھے۔ حضرت مرحوم سے ایک انگریز نے بڑی کوشش کی یہاں تک کہا کہ حضرت آپ گھوڑے پر سوار ہو کر سارا شہر کریں شام کے وقت جہاں آپ کا گھوڑا قدم رکھے گا وہاں تک سارا علاقہ کو بطور جاگیر دے دیا جائے گا آپ اس کے مالک ہوں گے اور لوگ مزارع ہوں گے۔ بات کو منوانے کے لئے انگریز نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا مگر حضرت نے فرمایا: "میرے کوئی چیز لینا نہیں چاہتا۔ پھر اس نے عرض کی کہ حضرت آپ کو تو بے شک ضرورت ہے۔ مگر آئندہ نسل کے لئے منظور فرمائیں۔ تاکہ وہ آرام سے زندگی گذاریں۔ فرمایا۔" "میرے سب کا اللہ تعالیٰ ہے مجھے اس کی کوئی فکر نہیں۔ اور میں کیوں ایسا کام کروں جو میرے لئے باعث عذاب ہو اور ان کے لئے سامان عیش ہو۔ پھر فرمایا چلے یہاں ایسی باتیں کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ چنانچہ آپ نے اس کو اپنے پاس نکال دیا۔ سمجھ گیا کہ اس مردِ آسین پر میرا کوئی ڈاؤن نہیں چل سکتا اور اس کو ہم مال و زر دے کر نہیں خرید سکتے اور یہ خلاق بھی ہو سکتا ہے۔ کہ کسی وقت اس سے ہمیں کوئی ہنچے۔ پھر کچھ ایام گذرنے کے بعد مولوی نے ہمارے حضرت مرحوم کا یہ شکایت کر دی کہ میری راج کے خلاق ہیں۔ پھر تو حضرت کی مخالفت کا انگریزوں کو پختہ یقین ہو گیا۔ اس ساری داستان کو دیکھ کر انگریزوں نے اذ خود حضرت مرحوم کی ساری زمین کا مالک بن کر دیا۔ اس کے مطابق عمل شروع ہو گیا اور آج تک اس تحریر کے مطابق عمل ہو رہا ہے۔ حکومت سے انگریزی حکومت ختم ہو گئی ہے۔ موضع جوڑا پنڈ میں آپ کے چچا زاد رہتے تھے۔ سرکاری کاغذات میں وہ باقی اہل دیہہ کی طرح مزارع درج ہو گئے۔ حضرت مرحوم کو اس کا علم ہو گیا۔ تو بہت پریشان ہوئے۔ پھر اس انگریز کو تیری حکومت میں یہ کیا ہو گیا ہے کہ میرے بھائی کو مزارع لکھ دیا گیا ہے۔

فوری اس آدمی کے خلاف کارروائی کی جائے جس نے یہ لکھا ہے۔ جب اس انگریز کو یہ علم ہوا۔ تو اس نے آپ کے بھائی صاحب کو مالک برقرار رکھا اور لفظ مزارع مٹا دیا۔ چنانچہ جوڑاپنڈ میں صرن حضرت مرحوم کے بھائی صاحب مالک تھے۔ بانی تمام لوگوں مزارع تھے۔ چنانچہ اس بات کو اس گاؤں کے بہارے لوگ جانتے ہیں۔ یہ واقعہ میں نے اپنے چچا زاد بھائی مولوی محمد نجفی صاحب کی زبان سنا۔ اور آج تک وہ اس کے معترف ہیں۔

۱۱۴ مولانا محمد عنوث المعروف بہ بڑے اجی صاحب مرحوم جب ریاست بھوبیل سے واپس وطن تشریف لائے اور موضع کھلابٹ میں سکونت اختیار کی تو عرصہ عورتان تک اپنے گاؤں میں فی سبیل اللہ درس حدیث دیتے رہے اور وہ دراز سے آکر اسلامی طلبہ آپ سے حدیث پڑھتے رہے۔ اور آپ قضا و افتاء کا عظیم کام بھی سرانجام دیتے رہے اور اس طرح آپ نے خدمت دین سے لوگوں کو فیض پہنچایا اور اور مذہب مخالف سنت کی پر زور حمایت کی اور سہر باطل مذہب کی سرکوبی کے لیے کمر بستہ رہے۔ اور ہزاروں سوالوں نے آپ سے علم دین حاصل کیا۔ اور آپ کے چشمہ فیض سے سیراب ہوئے۔ خدمت دین کے ساتھ ساتھ معیشت کے لیے آپ نے پیشہ زراعت اختیار کیا اور اپنی آبائی زمین کے علاوہ مزید زمین خریدی اور اس میں کنوئیں اور باغ کا انتظام کیا اور اپنے وقت کو تین حصوں میں تقسیم کیا را عبادت الہی اور ذکر و فکر اور درس و تدریس اور قضاء و افتاء اور اپنی زمین کی دیکھ بھال۔ یہ آپ کے کام تھے۔ جو حضرت ان کو اپنی آخری زندگی میں خوش اسلوبی کے ساتھ نبھاتے رہے۔

۱۱۵ حضرت مولانا محمد عنوث صاحب مرحوم کا معمول تھا۔ کہ رات کے آخری حصہ میں اٹھتے۔ پہلے باد صوبو کر نماز تہجد ادا فرماتے اور اپنے مالک الملک سے رازد نیاز کرتے۔ پھر اس سے فارغ ہو کر کتب دینیہ کا مطالعہ کرتے ایک رات آپ حسب دستور اٹھتے اور باہر نکلے تو دیکھا کہ گائے باہر بندھی ہے

خیال آیا شاید غفلت کی وجہ سے گھر والوں میں سے کسی نے اس کو اندر نہیں باندھا جلدی سے اس کو کھڑکی میں باندھ دیا پھر اپنے کام میں مشغول ہو گئے۔ کچھ دیر گزری کہ پھر آپ باہر نکلے تو کیا دیکھتے ہیں کہ گائے پھر باہر کھڑکی ہے۔ پھر آپ نے اس کو اندر کر دیا اور خود اپنے کام میں مصروف ہو گئے۔ پھر کچھ دیر کے بعد باہر آئے تو دیکھا کہ گائے پھر پہلے کی طرح باہر کھڑکی سے پھر آپ نے اس کو اندر جا کر مضبوط باندھ دیا۔ کچھ حیرت ہوئی لیکن اس طرف دھیان نہ کیا اور اندر جا کر سو گئے۔ سوتے ہی خواب میں آپ کو ایک سفید ریش نورانی بزرگ نظر آئے۔ جو آپ سے مخاطب ہو کر فرمانے لگے۔ کہ تم ہر بار ہمارے سر پر گائے باندھتے ہو ہم اس کو باہر نکالتے ہیں اور تم پھر اس کو اندر آکر باندھ دیتے ہو۔ یہ کیا بات ہے تمہیں ہماری کوئی پاسداری نہیں۔ جب حضرت نے ان کی بات سنی تو فرمایا تم کون ہو اور تمہارا ڈیرا کہاں ہے تو انہوں نے کہا میرا نام بادا شیت ہے اور میرے ساتھ میری ایک بہن ہے جس کا نام امدان بخشی ہے ہم دونوں شہید ہیں ہمارے شہید ہوئے مدتیں گزر گئیں اور ہمارا ڈیرا (دونوں کی قبریں) تمہاری کھڑکی میں ہے۔ پھر انہوں نے باقاعدہ اپنی قبروں کی نشاندہی کی جو اس طرح بزرگوں سے سنی گئی ہے۔ کہ ہمارے گھر میں ایک کھڑکی ہے جو اب باورچی خانہ کے طور پر استعمال ہوتی ہے۔ اس کے شمال مشرق والی دیوار کے متصل دو قبروں کے نشان بتائے گئے ہیں۔ پھر آپ نے ان سے پوچھا کہ اب تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے تو تم خوش ہو جاؤ گے۔ وہ کہنے لگے ایک تو ہماری جائے سکونت کی حد مقرر کر دو جو ہمیشہ صاف ستھری رہے۔ کسی قسم کی ہندگی وغیرہ سے اس کو آلودہ نہ کیا جائے۔ شیر خوار بچے اور ناپاک عورتیں وہاں قدم نہ رکھیں ورنہ نقصان ہوگا۔ پاک آدمی پڑھنے پڑھانے کے لئے بیٹھے تو کوئی حرج نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے نام کی فاتحہ دیا کرو۔ حضرت نے فرمایا کس چیز پر فاتحہ دیا کریں۔ کہنے لگے کہ آٹا اور کھانڈ دونوں کو ملا کر دکھایا جائے اور یہ شیرہ ہمارے نام پر دیا کرو اس تفصیلی گفتگو کے بعد آپ بیدار ہو گئے۔ پھر آپ نے اس سارے واقعہ سے تمام گھر والوں کو آگاہ کیا اور حسب ارشاد اس جگہ کی حد مقرر کر دی اور اس کو صاف ستھرا کرنے کا اہتمام کیا۔ اور آٹے اور کھانڈ کے شیرے پر ان کی فاتحہ دی اور گھر کے آدمیوں کو

ہمیشہ کے لئے اس کام کی تاکید کر دی۔ چنانچہ آج تک ہمارے گھر میں حضرت کی وصیت کے مطابق اس کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اور ان بزرگوں کا خیال رکھا جاتا ہے یہ بات بھی یاد رکھنے کے قابل ہے۔ کہ ہمارے گھر والوں میں یہ دستور ہے کہ اگر کوئی مشکل پیش آئے تو ان بزرگوں کی نیاز مانتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ان کے طفیل اس مشکل کو حل کر دیتے ہیں۔ میں نے بارہا گھر والوں کو ایسا کرتے دیکھا ہے۔ اگر اس جگہ کوئی شرارت کرے تو اس کو نقصان ہوتا ہے۔ ہمارے اس گھر میں کچھ مدت ایک مولوی صاحب رہے۔ ان مولوی صاحب نے بتایا کہ میں نے رات کو کچھ مرتبہ ایک سفید ریش آدمی کو گھر کے صحن میں کھڑے دیکھا۔ پھر وہ مجھ سے پوچھنے لگے کہ وہ کون ہیں پھر میں نے ان کے سامنے سارا واقعہ بیان کیا تو ان کی تسلی ہو گئی۔ اس واقعہ سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت پڑاوا صاحب کو بزرگوں کے ساتھ بے حد محبت تھی۔ اور حتی الامکان ان کا قدر و احترام کرتے تھے۔ ہمیشہ اپنی سنت کے بزرگوں کا یہی طریقہ رہا ہے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں۔

(۱۶) حضرت پڑاوا مولانا محمد عنوث صاحب نے ایک شادی ریاست بھوپال میں دانی ریاست کی لڑکی سے کی۔ پھر جب آپ کی طبیعت وہاں ادا ہو گئی۔ اور آپ وطن واپس آ گئے تو اس بیوی کو وہیں چھوڑ آئے۔ پھر کچھ عرصہ کے بعد اس کو آنا کر دیا۔ جب آپ وطن واپس آئے تو پہلے یہ ارادہ تھا کہ شادی نہیں کروں گا۔ چنانچہ اسی پر دو گرام کے مطابق آپ نے کچھ مدت گزار لی۔ اور یہاں گاؤں رکھلا بٹ میں خوانین کے گھروں میں سے ایک بی بی آپ کی ہمشیرہ بنی ہوئی تھی۔ وہی بی بی آپ کے خورد و نوش کا انتظام کرتی تھی۔ اور آپ اس کی ہر جائز بات مانتے تھے۔ پوسے طور پر آپ کو اس پر اعتماد تھا۔ جب اسے آپ کے شادی نہ کرنے کا ارادہ معلوم ہوا۔ تو اس نے آپ کو شادی کرنے پر پوری کوشش سے آمادہ کیا۔ چنانچہ آپ اس کی بات پر رضا مند ہو گئے۔ پھر اس نے بوری تگ و دو کے بعد موضع ڈھبندہ سے ایک شریف اور پارسا بی بی کے ساتھ آپ کا عقد کر دیا۔ پھر اس طرح آپ کے

گھر کی آبادی کی صورت پیدا ہوئی۔ اور اللہ تعالیٰ نے اُس گھر کو جو برسوں غیر آباد رہا پھر از سر نو آباد کیا۔ اور لوگوں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے آگے ہر ناممکن کام ممکن ہے۔ وہ جسے چاہے اور جب چاہے اور جو کچھ چاہے کر سکتا ہے۔ اُس کے ارادہ کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اور اس کا ارادہ اس کے کام پر غالب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ **وَ اللّٰهُ غَالِبٌ عَلَىٰ اَمْرِكُمْ وَ لَكِن كَثْرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ** **وَيَفْعَلُ اللّٰهُ مَا يَشَاءُ** **وَ اِنَّ اللّٰهَ لَفَاعِلٌ مَّا يَشَاءُ**۔ پھر اس بیوی کے ساتھ حضرت مدتوں خوش و خرم رہے۔ اور وہ آپ کے سفر زندگی کی بہترین ساتھی ثابت ہوئی۔ آپ کے نہایت خوشگوار ایام اس کے ساتھ گزارے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس بیوی سے مندرجہ ذیل اولاد عطا فرمائی۔

دو لڑکے۔ پانچ لڑکیاں۔ آپ کے لڑکوں کے نام یہ ہیں۔ ۱۔ مولانا محمد مظہر جمیل مرحوم ۲۔ مولانا محمد خلیل محدث ہزاروی۔ آپ کی لڑکیوں کے نام یہ ہیں ۱۔ بی بی ماہ جہان بیگم ۲۔ بی بی شاہ جہان بیگم ۳۔ بی بی متور بیگم ۴۔ بی بی محمد نشاں ۵۔ بی بی ماہ تہتاب نشاں۔ حضرت مرحوم کی ایک لڑکی موضع درویش میں حضرت مولانا فیض عالم رحمۃ اللہ علیہ مصنف و جیز الصراط کے گھر تھی۔ دوسری لڑکی موضع پھیدیاں میں ایک سید صاحب کے گھر تھی۔ جو حضرت شاہ قبول رحمۃ اللہ علیہ پشاور کی اولاد میں سے تھے تیسری موضع موٹھری کے ایک صاحب (جو کہ ٹنڈو تھے) کے گھر تھی۔ چوتھی لڑکی قدرت اللہ نامی کے گھر تھی۔ یہ حضرت مرحوم کے بھتیجے تھے۔ بے چارے نہایت سادہ اور غریب و نادار تھے۔ حضرت نے بھتیجی سمجھ کر اس کو لڑکی دے دی اور غربت کا کوئی خیال نہ کیا۔ یہ ایک خاص وصف ہے جو ہزاروں انسانوں میں سے اللہ تعالیٰ ایک آدمی کو عطا کرتا ہے۔ اور اسی کا نام جو ہر نفس یا شرافت نفس ہے۔ پانچویں لڑکی موضع ڈھینڈہ کے مشہور خاندان کے ایک اعلیٰ فرد حضرت مولانا قاضی عبدالعقلم صاحب کے گھر تھی۔ یہ حضرت مرحوم کے سالا کے لڑکے اور بڑے جید عالم تھے۔ یہ طلب یونانی میں بہت ماہر تھے۔ چنانچہ یہ شاہی معالیٰ مشہور تھے۔ راجہ کشمیر کے دربار

میں ان کو خاص مقام حاصل تھا۔ اور یہی اس کا علاج کرتے تھے۔

شیرِ اسلام۔ علامہ زماں۔ فخرِ دوراں۔ امامِ معقول حضرت

مولانا محمد معصوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حالات

قاضی عبدالقادر صاحب کے ایک اور بھائی تھے۔ جن کا نام مولانا محمد معصوم تھا۔ کہ علومِ عقلیہ میں شیخِ اربیس کے مشابہ تھے۔ اور تحقیقِ مسائل میں بہت بلند پایہ رکھتے تھے۔ غوثِ زماں حضرت خواجہ پیر نیر علی صاحب گولڑوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ علماء ہزارہ میں آپ کو مخاطب کرتے تھے۔

کہتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی کی طرف حضرت گولڑوی رحمۃ اللہ علیہ نے دربارہ توحید الہی سوائے لکھنؤ پہلے وہ سوالات حضرت مولانا محمد معصوم صاحب کا طرف بھیجے۔ بہر حال یہ بہت بلند پایہ عالم تھے۔ ان کا ہر تہہ اُس وقت کوئی عالم نہ تھا۔

یہ تمام کتب درسیہ دو سال میں پڑھاتے تھے یہ ان کا خاص کمال تھا کہ میں پڑھاؤں میں سے ایک بھی نہ پہنچ سکا۔ (میرے) حضرت قبلہ والد مرحوم فرمایا کرتے تھے کہ درالعلوم دیوبند کا نصابِ تعلیم بارہ سالہ ہے۔ اور میرا نصابِ تعلیم چھ سال۔ اور مولانا محمد معصوم کا نصابِ تعلیم دو سال تھا فرمایا اس پر حیرت ہوئی ہے کہ حضرت مولانا اس معاملہ میں سب پر بازی لے گئے۔ اور یہ نہیں کہ جو بارہ سال کے عرصہ میں پڑھتا وہ حضرت مولانا محمد معصوم رحمۃ اللہ علیہ کے دو سال کی تعلیم کی بہ نسبت زیادہ عالم ہوتا۔ بلکہ مولانا مرحوم سے تعلیم پانے والا بارہ سال تعلیم پانے والے کی بہ نسبت کہیں زیادہ عالم ہوتا تھا۔

مرزا غلام احمد قادیانی کی جانب سے مولوی نوز الدین منطقی اباحت لکھا کرتا تھا۔ اور حضرت قبلہ عالم گولڑوی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے بسا اوقات حضرت مولانا محمد معصوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ جواب دیا کرتے تھے۔ پناہِ حیات حضرت مسیح علیہ السلام کے مسئلہ پر جب دونوں طرف سے بحث چل نکلی اور متعلقہ آیت وَمَا قَتَلُوا۟ۤ اِیۡحٰیۡنَا۟

بِنِ كَرَفَعَهُ اللهُ إِلَيْهِ۔ الایمہ پر بات سو رہی تھی۔ تو حضرت مولانا محمد معصوم صاحب  
 رحمۃ اللہ علیہ نے کلمہ قبل پر جو کلام فرمایا وہ آپ کے دست اقدس کا تحریر کردہ  
 اس ناچیز مؤلف حالات ابو الفتح غلام محمود عینی عنہ الودود نے بھی دیکھا ہے  
 حضرت مولانا محمد معصوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اس عربی عبارت کی نسبت قبلہ ام  
 حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے۔ کہ مولانا کی اس عبارت اور قاضی مبارک  
 کی عبارت میں تحریر کے ڈھنگ کے لحاظ سے کچھ فرق معلوم نہیں ہوتا۔ ناچیز  
 ابو الفتح نے کئی موقعوں پر حضرت والد صاحب کو مولانا محمد معصوم رحمۃ اللہ علیہ کو  
 یاد کرتے اور ان کے وسیع علم کا بہت اچھے الفاظ میں تذکرہ کرتے۔ اور پھر مولانا  
 کی وفات پر ساتوں کے بعد انہیں سناتے سنا ہے۔

قارئین کرام! ہمارے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے  
 مجدد الحق شیر آبادی بلکہ طرز استدلال اور منطقی و معقولی کلام میں خود قاضی مبارک  
 تھے۔ علوم عقلیہ اور نقلیہ کے بلاشبہ امام تھے۔ اور جب وہ مولانا محمد معصوم کے علم  
 کا دوست کے قائل تھے۔ تو اس سے مولانا محمد معصوم رحمۃ اللہ علیہ کی دستِ علمی  
 اندازہ ہوتا ہے۔

یہ بھی حضرت قبلہ کی زبانی سنا کہ کسی نے حضرت مولانا سے عرض کی کہ حضرت  
 اپنے لڑکے کو کیوں نہیں پڑھاتے۔ اس کا وقت صنایع سو رہا ہے۔ فرمایا اسی اس کا  
 یہ کچا ہے۔ جب ذمہ نچتے ہو گیا تو پھر تھوڑی مدت میں پڑھ لے گا۔  
 میں نے حضرت قبلہ سے پوچھا۔ کہ کیا آپ نے مولانا مرحوم کو دیکھا ہے۔ بڑی  
 سرت سے فرمایا کہ میری قسمت کہاں تھی کہ ان کو دیکھتا۔ اور اگر میں ان کو دیکھتا۔ تو  
 ان پر سوال کرتا۔ پھر انہیں بھی پتہ چلتا کہ کوئی ہے جاننے والا۔

پھر فرمایا جب حضرت مولانا مرحوم کا وصال ہوا۔ تو میں اس وقت بہت چھوٹا  
 تھا۔ مجھے صرف اتنا یاد ہے۔ کہ میرے والد مرحوم جب حضرت مولانا کے دفن سے فراغت  
 کے بعد اپس گھر لوٹے۔ تو تمام رات بھر سوئے رہے۔ اور زبان سے یہ بھی فرماتے تھے۔ کہ آج علم



کے پہاڑ کو زیر خاک کر دیا گیا ہے۔ پھر اسی سوز و گداز میں آپ نے رات گزاری  
کئی روز تک مرحوم کی وفات کا آپ پر گہرا اثر رہا۔

حضرت مولانا محمد معصوم اور حضرت مولانا قاضی عبدالعظیم یہ دونوں صاحبِ حضرت  
فقیر العصر مولانا محمد منظر جمیل رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا محمد خلیل محدث ہزاروی  
مرحوم کے ماموں زاد بھائی تھے۔ مفتی محمد حسن صاحب شیخ الحدیث و سابق مہتمم جامعہ اشرفیہ  
لاہور مولانا محمد معصوم کے شاگردوں میں سے تھے۔ اور مولانا خیر محمد صاحب مہتمم و شیخ الحدیث  
خیر المدارس ملتان بھی مولانا موصوف کے شاگرد ہیں۔ ان دونوں نے مولانا سے ہندوستان کے  
قیام کے دوران پڑھا تھا۔ رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعۃ۔ علیہ

۱۱۱ حضرت پر داد مولانا محمد غوث صاحب مرحوم زندگی کے آخری دنوں میں کمزور ہو  
گئے تھے۔ اور بیانی کم ہو گئی تھی۔ مگر اس کے باوجود حضرت کے معمولات میں کوئی فرق نہیں آیا  
تھا۔ حسب دستور نماز باجماعت مسجد میں جا کر ادا کرتے تھے۔ طلبہ کو بھی باقاعدہ پڑھاتے  
تھے۔ الغرض اپنے آخری دم تک اپنے کسی فریضہ کی ادائیگی میں کوتاہی نہیں برتی۔ اللہ تعالیٰ  
کے فضل و کرم سے اپنے سارے معمولات ادا کرتے رہے۔ یہاں تک کہ قرضِ محضری سے  
آپ کی روح ملاءِ اعلیٰ سے جاملی۔ اور روح جسمِ خاکی کو اکیلا چھوڑ کر وطنِ اصلیٰ کو جا  
سدھاری۔ اور اس طرح آپ اپنے عزیز واقارب، دوست و احباب اور تلامذہ کے محبوب  
حلقہ سے ہمیشہ کے لئے جدا ہو گئے۔ چونکہ آپ ملتِ اسلامیہ کے درخشندہ ستارے بلکہ  
یوں کہئے کہ روشن آفتابِ اسلمائے صدیاں گذر جانے کے باوجود آج ملک میں آپ کا نام روشن  
ہے۔ اور آج بھی آپ کے عقیدہ مند اور نام لیوا موجود ہیں۔

الغرض شیخ الاسلام شیر سرحد حضرت مولانا محمد غوث صاحب محدث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ  
ظاہری اور باطنی علوم میں کامل اور یگانہ روزگار تھے اور صاحب کشف و کرامات بزرگ تھے  
حضرت والد صاحب علامہ قاضی محمد عبدالرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے بھائی کا  
جب انتقال ہو گیا۔ تو ان کی والدہ ماجدہ کافی پریشان اور غمگین رہنے لگیں۔ حضرت علامہ  
قاضی صاحب موصوف و مذکور کے دادا حضرت محمد غوث صاحب نے اپنی بہو سے ان کی

مفتی محمد حسن صاحب موصوف کے اپنے حالات میں جو کتاب لکھی ہے اس میں خود انہوں نے مولانا محمد معصوم صاحب کا ذکر اپنے قابلِ اساتذہ کے سلسلہ میں کیا ہے

حالت پریشانی دیکھ کر فرمایا۔ بیٹی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں اللہ تعالیٰ تجھے ایسا  
 دے گا۔ جو میرے علم اور میری کتابوں کا وارث ہوگا۔ مگر میں نہ ہوں گا۔ چنانچہ حضور  
 ﷺ نے پیش گوئی توفیق بجز صحیح ثابت ہوئی۔ اور حضور والد صاحب واقفی اپنے دادا کے علم و فضل  
 کے ساتھ وارث نکلے۔

شیخ الاسلام حضرت محمد عوث صاحب نے ایک سو بیس سال عمر پائی۔ زندگی کے  
 پچھلے حصہ میں علم حاصل کیا اور دوسرے حصہ میں ہندوستان میں پڑھایا اور عمر کا آخری حصہ  
 طے مالون میں گزارا۔ اور یہیں درس و تدریس فرماتے رہے۔ حضور نے اپنی تمام زندگی  
 شجاعت و بہادری میں گذار دی۔ اور اللہ تعالیٰ کے ذکر و فکر میں زندگی کے ایام بسر کئے۔ بہت  
 لوگ ہیں جنہیں اس طرح کی سعادت حاصل ہوئی آپ کا سبق پیدائش اور وصال معلوم نہیں  
 سکا۔

بزرگوں کی رسم کے مطابق شہنشاہ داڑی حضرت شاہ شیر محمد صاحب غازی رحمۃ اللہ  
 کے مشہور قبرستان میں شمال مغرب کی جانب آپ کو سپرد خاک کیا گیا۔ اَلْمَوْتُ  
 حَقٌّ كُلُّ نَفْسٍ شَارِبُ بُوْءِهَا۔ وَالْقَبْرُ بَابٌ كُلُّ نَفْسٍ دَاخِلُوْهَا

کمالات زندگی پر طریقت، امام شریعت مجاہد ملت

شیر العصر مناظر اسلام حضرت مولانا محمد مظہر جمیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ

زا، حضرت دادا صاحب مولانا محمد مظہر جمیل صاحب مرحوم نے اکثر کتابیں اپنے والد  
 صاحب سے پڑھیں اور یہ بھی سنا گیا ہے کہ آپ تحصیل علم کے لئے پنجاب گئے تھے۔ وہاں  
 علم و فقر کے آفتاب حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ آدان شریعت کے درس میں پڑھتے  
 تھے۔ کہتے ہیں کہ آپ نے ظاہری اور باطنی علوم کی تکمیل حضور غریب نواز سے کی۔ حضرت  
 صاحب قدس سرہ العزیز کی ذات گرامی محتاج تعارت نہیں۔ آپ کے کمالات کو بیان  
 کسی انسان کے بس کاموگ نہیں۔ اہل آپ کے حالات تحریر کرتے ہوئے قلم لرزتا ہے

پس یوں سمجھیے کہ وہ علم و عمل کے ناپید الٹا سمندر تھے۔ جس کی موجوں کے کنارے کھڑا ہونے والا اسکی گہرائی کا اندازہ نہیں کر سکتا۔ اور جو اس میں گھس گیا پھر اسے باہر آنے کی ہوش نہیں رہتی۔ آپ تو حید باری تعالیٰ کی روشن دلیل تھے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم معجزہ تھے۔ اور اسلام کے بلند پایہ مفکر تھے اور راہِ توحید کے بے نظیر غوطہ زن تھے۔ اور عوام کے پیر کامل اور خواص کے لئے اکمل رہ نما تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی روح پر کر ڈ کر ڈر جھٹیس نازل فرمائے۔ اور آپ کے کامل وسیلہ سے ہم سب کو دین و دنیا کے مضامین سے محفوظ رکھے۔ آمین

حضرت دادا صاحب مرحوم اسلامی علوم میں کامل مہارت رکھتے تھے۔ خصوصاً علم فقہ میں بہت سیر تھے۔ قضاء و افتاء کا کام اپنے زمانہ میں انہی کے سپرد تھا۔ دور دراز سے لوگ فتویٰ پوچھنے آپ کے پاس آتے تھے۔ اسی وجہ سے آپ فقہ العصر کے نام سے مشہور تھے۔ وعظ و تقریر اور سخن گوئی میں بھی آپ یکتائے روزگار تھے۔ سینکڑوں کے اجتماع میں آپ وعظ فرماتے تھے اور ساری محفل پر چھا جاتے۔ اور یکساں طور پر سارے لوگ آپ کے وعظ سے متاثر ہوتے تھے۔

حضرت والد صاحب دنیا کرتے تھے۔ کہ جب آپ وعظ کہنا شروع کرتے تو حاضریں ڈھائیں بار کر دتے اور کسی کو آہ و زاری دھنپ کرنے کی طاقت نہ ہوتی۔ آپ اپنے وعظ میں حسب موقعہ شعر بھی پڑھتے تھے۔ مثنوی مولانا روم اور کلام سعدی اور حافظ شیرازی کو زیادہ تر اپنے وعظ میں بیان کرتے۔ کہ جس سے حاضرین بے قابو ہو جاتے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے حسن آواز سے بھی نوازا تھا۔ جو کہ ایک سترک لے بے حد ضروری ہے آپ فارسی بہت اچھی جانتے تھے۔ غرضیکہ آپ فن گفتگو کے امام تھے۔

۱۲ کہتے ہیں کہ خوانین کھلاہٹ سے امان خان مرحوم کے ساتھ آپ کی گہری دوستی تھی۔ اور دونوں کی آپس میں بے حد محبت تھی۔ دونوں مل کر کھانا کھاتے۔ ایک وقت خان مرحوم ان کے ہاں سے کھانا کھاتا۔ اور دوسرے وقت یہ خان کے ہاں جا کر کھانا کھاتے اور ان کی وجہ سے خان مرحوم پانچ وقت نماز مسجد میں جا کر پڑھتا اور پھر دونوں دیر تک

جو گفتگو رہتے۔ چونکہ حضرت آداب مجلس اچھی طرح جانتے تھے۔ اس وجہ سے خان مرحوم ان کو بہت چاہتا تھا۔ ایک دفعہ خان مرحوم نے حضرت دادا صاحب سے کہا کہ سنا ہے کہ سکندر پور والے مولوی عبداللہ صاحب کا صاحبزادہ مولوی احمد صاحب ہندوستان سے پھر کر آیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ مولوی صاحب کو مبارکباد دینے دونوں جائیں سکندر پور والے مولوی عبداللہ صاحب دونوں کے نہرہان تھے۔ ان کا نام والدین نے باز گل رکھا تھا مگر ایک دفعہ مولوی صاحب سے حضرت دادا صاحب مرحوم نے فرمایا تھا۔ کہ یہ نام مولویوں کے ساتھ مناسبت نہیں رکھتا۔ لہذا اس کی جگہ میں آپ کا نام مولوی عبداللہ رکھتا ہوں۔ چنانچہ حضرت کی پسند کی وجہ سے اسی نام کو مقرر کیا گیا۔ اور مولوی صاحب سکندر پور والے اسی نام سے مشہور ہوئے۔ یہ تھے دونوں بزرگوں کے آپس میں تعلقات۔ دادا صاحب نے فرمایا کہ ضرور جانا چاہیے۔ چنانچہ دونوں گھوڑوں پر سوار ہو کر سکندر پور کی طرف چل پڑے کہتے ہیں کہ جب دونوں گاؤں کے قریب پہنچے تو کسی نے کہا کہ مولوی احمد صاحب وہ آرہے ہیں۔ جب دونوں نے دیکھا تو واقعی وہ آرہے تھے۔ خان نے دادا صاحب سے کہا کہ پہلے ان سے ملاقات کر لینی چاہیے۔ بہت اچھا ہوا کہ باہر ہی مل گئے۔ چنانچہ دونوں گھوڑے روک کر وہیں قبرستان کے پاس کھڑے ہو گئے۔ مولوی احمد صاحب ان کے آنے کا علم ہوا۔ تو اپنے سادہ پن کی وجہ سے بجائے اس کے کہ ان دونوں سے آکر علیک سلیک کرتے۔ دوسری طرف سے قبرستان میں چھپ گئے۔ خان ان کی سادگی کو بھانپ گیا۔ حضرت دادا صاحب سے کہنے لگا۔ کہ یہ نسے عالم ہیں۔ ان کو آداب ملاقات کی خبر نہیں۔ دیکھو یہ بھاگ گئے ہیں۔ القصرہ دونوں چارو نا چار سکندر پور حضرت مولانا عبداللہ صاحب کے پاس پہنچے اور ان سے ملاقات کی۔ وہ بہت خوش ہوئے آپس میں دیر تک مجلس کرتے رہے۔ باتیں کرتے کرتے خان مرحوم نے مولوی صاحب سے کہا کہ میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں اگر آپ کو اعتراض نہ ہوں تو کروں۔ انہوں نے کہا کہ میں ناراض نہیں ہوتا۔ آپ جو بات سو بیان کریں۔ خان موصوف نے کہا کہ آپ کا صاحبزادہ ہندوستان سے فارغ التحصیل ہو کر آیا۔ ہمیں اس پر خوشی ہوئی۔ آپ کو مبارک ہو۔ اور یہ چیز ہم سب کے لئے خوشی کا باعث ہے۔ مگر اس کو

دنیا داری کا پتہ نہیں۔ میں دہلاپ کی داغیت نہیں۔ کچھ مدت آپ اس کو میرے پاس چھوڑی تاکہ وہ ان باتوں میں بھی طاق ہو جائے۔ اس کے جواب میں مولوی صاحب نے خندہ پیشانی سے فرمایا کہ خان صاحب تم ٹھیک کہتے ہو۔ واقعی ہم لوگوں کو دنیا داری کی داغیت نہیں ہوتی۔ اور مولوی لوگ ان بکھیروں میں نہ پڑنے کی وجہ سے ناواقف ہوتے ہیں۔

۳۱ دادا صاحب کو پہاچی زرتہ اللہ علیہ (جو کہ موضع ڈھینڈہ کے رہنے والے تھے) سے بھی خلافت ملتی تھی۔ یہ پہاچی صاحب دادا صاحب کے ماموں تھے اور بہتے بند پاڑے بزرگ اور صاحب کشف بزرگ تھے۔ کہتے ہیں کہ بے شمار لوگ ان کے پاس ملاتے تھے۔ ان کی ذات مرجع خلائق تھی۔ ایک دفعہ ایک شخص نے جاتے ہوئے اپنے ساتھی سے کہا کہ میں تب مالوں گا کہ آج جب میں عبادوں تو مجھے صوا اور پراٹھے کھلائیں۔ کہتے ہیں جب وہ آدمی گیا تو حضرت موصوف اس کے لئے پراٹھے اور صوا لائے اور فرمایا کھائیے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس قدر صاحب کرامت بزرگ تھے۔ ان سے دادا صاحب کو خلافت بھی تھی۔ اور چند کلاموں کے پڑھنے کی اجازت بھی

تھی۔ کہتے ہیں کہ دادا صاحب کو ہر روز بیس روپے دست غیب سے ملتے تھے۔ اگر کسی روز نہ بیس تو اس کے عوض دوسرے روز چالیس روپے مل جاتے تھے۔ دادا صاحب مولانا محمد منظر ہمدانی صاحب کو حضرت پہاچی صاحب سے قصیدہ بردہ و سورہ یوسف اور چند دیگر کلاموں کی بھی اجازت تھی۔ جو کہ حضرت ان کی اجازت کی وجہ سے پڑھتے تھے۔ کہتے ہیں کہ جنات بھی آپ کے تابع تھے۔ اور چونکہ آپ ان کو تکلیف نہیں دیتے تھے۔ جس وجہ سے وہ خوش رہتے تھے کہتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت کو اناروں کی ضرورت پڑی۔ اور انار سوائے کابل قندھار کے کہیں سے نہ ملتے تھے۔ اور وہاں سے انار لانے کا کوئی انتظام نہ تھا کہ جس کی وجہ سے

پریشانی ہوئی۔ پھر خیال آیا کہ جنات سے کہنا چاہیے۔ (عام عالموں کی طرح حضرت انہیں کچھ نہیں کہتے تھے۔ اور نہ کبھی کوئی چیز مانگتے تھے) اس شدید ضرورت کی وجہ سے جنات سے کہنا پڑا۔ جب ان کو حاضر کیا گیا تو وہ بہت ناراض ہوئے اور کہنے لگے کہ ہماری ہمیشہ کی برات کوہ قاف جارہی تھی۔ اور ہم بھی ساتھ تھے۔ تو اس دوران آپ نے ہمیں طلب کیا اور ہمیں آنے میں بہت تکلیف ہوئی پھر کہنے لگے کہ آپ نے کاہے کے لئے بلایا ہے آپ

نے فرمایا کہ انار ضرورت ہیں۔ کہنے لگے بس اسی کام کے لئے بلایا گیا ہے۔ یہ تو معمولی کام تھا۔ اس کے لئے کیوں اتنی تکلیف دی۔ پھر اسکا وقت تندر چلے گئے اور کچھ دیر بعد اناروں کے بدین درخت اکھاڑ لائے اور لا کر حضرت کے گھر و صرام سے دے مارے اور کہنے لگے کہ خوب کھاؤ اور پھر اجازت لے کر چلے گئے۔ لیکن ان کے دل میں غصہ پیدا ہو گیا کہ موقع پا کر انتقام لینا چاہیے۔ چنانچہ ایک دن حضرت دادا صاحب مسجد میں سو رہے تھے کہ جنات ہو آگئے ایک دوسرے سے کہنے لگا۔ کہ میں چھوٹ کا شہتیرا اٹھاتا ہوں اور تم مولوی صاحب کو اٹھا کر ان کے سر کو ستون اور شہتیر کے درمیان رکھ دو۔ اس طرح ان کا سر معاذ اللہ پکلا جائے گا۔ یہ باتیں ہی سو رہی تھیں۔ کہ حضرت بیدار ہو گئے۔ تو بیدار ہونے کی حالت میں کیا دیکھتے ہیں کہ جنات کھڑے ہیں۔ آپ ان کی شرارت کو تاڑ گئے۔ جب پوچھا تو انہوں نے بھی بتا دیا۔ اور کہنے لگے کہ آپ کی زندگی تھی۔ ورنہ تم لوگ کام تمام کرنے آئے تھے۔ اور پھر وہ خوشی خوشی رخصت ہو گئے۔ اور ان کے جانے کے بعد حضرت مرحوم کو یہ خیال آیا کہ مہجوت کی آشنائی خطرہ محبان ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں۔ ان کے ساتھ دوستی اچھی نہیں۔ چنانچہ آپ نے اپنے صاحبزادے کو وصیت فرمائی کہ اپنی زندگی میں جنات کو قابو میں کرنے کا کوشش نہ کرنا۔ یہ کام اچھا نہیں اس میں سراسر خسارہ ہی خسارہ ہے۔

(۴) چھوٹی صاحبہ بیان کرتی ہیں۔ کہ والد صاحب رات کو برآمدہ میں سو یا کرتے تھے۔ اور ہر رات ایک آدمی کا کھانا پاس رکھواتے تھے۔ ہم سب کو اس طرح کرنے سے تعجب ہوتا تھا۔ مگر پوچھنے کی جرأت نہ تھی۔ اس راز کو معلوم کرنے کے لئے ایک رات ہم نے جاگنے کا انتہام کیا۔ جب آدھی رات ہوئی تو گھر کے صحن میں کسی کے داخل ہونے کا احساس ہوا۔ پھر سلام کی آواز آئی۔ حضرت مرحوم اٹھ بیٹھے اور آنے والوں کے سلام کا جواب دیتے ہوئے فرمایا آج تم بہت دیر سے آئے۔ اس کی کیا وجہ ہوئی۔ وہ غصہ سے بھرے ہوئے لہجہ میں بولے حضرت کیا پوچھتے ہو کہ ہم آپ کے پاس آ رہے تھے کہ ایک ساتھی ہم کو سندر پور لے گیا وہاں ہم ایک قاضی کے گھر گئے۔ تو وہاں کھانا تیار تھا اور گھر والے کھانا کھانے کا آپس میں کہہ رہے تھے۔ ہم نے سوچا چلو آج یہیں سے کھانا لیتے ہیں۔ یقیناً کوئی اچھی چیز پکانی ہوگی۔ جب کھانا لایا

گیا۔ اور ہم بھی شریک ہو گئے۔ تو کیا دیکھتے ہیں کہ وال ہے۔ ہم سب غصہ سے لال پیلے ہو گئے پھر ہم نے پلیٹ کو پٹاخ سے زمین پر دے مارا۔ اور قاضی اور اس کی بیوی کو آپس میں لڑا دیا اور جب ان کی جنگ گرم ہوئی تو ہم قہقہے لگاتے ہوئے وہاں سے نکل آئے۔ اس وجہ سے حضرت ہم کو دیر بھی ہو گئی اور سخت بھوک بھی لگ گئی۔ قاضی دیوث اور کنجر نے ہمیں بلا وجہ پریشان کیا۔ اور اس کے دسترخوان سے ہم بھوکے اٹھ کر آئے اور کہنے لگے کہ جلد کچھ کھانے کو دو کیونکہ بھوک سے جان نکل رہی ہے۔ چنانچہ حضرت والد صاحب نے روٹی اور گوشت پیش کیا۔ تو وہ چنارے لے کر کھاتے بھی تھے اور یہ کہتے بھی تھے کہ حضرت آج خوب مزا آیا۔ آج جیسی لذت کبھی نہیں آئی۔ برتن صاف کرنے کے بعد والد صاحب سے کچھ باتیں کرنے لگے۔ ہم نے سمجھنے کی کوشش بہت کی۔ مگر ہم سمجھ نہ سکے۔ صبح جب ہم نے برتن دیکھے تو صاف تھے۔ تحقیق سے معلوم ہوا کہ حضرت والد صاحب کے پاس رات جن آیا کرتے ہیں اور جنات ہی کا ایک اور واقعہ سمیٹے۔ پھوپھی صاحبہ ہی بیان کرتی ہیں ایک دفعہ والد صاحب اپنی ہمیشہ کورات کے وقت جوڑا پنڈلے بارہے تھے۔ پھوپھی صاحبہ گھوڑی پر سوار تھیں۔ اور والد صاحب لگام پکڑے سوئے آگے آگے جا رہے تھے۔ کہ جب بڑی دانی زیارت کے پاس پہنچے تو گھوڑی رک گئی۔ انتہائی کوشش کے باوجود گھوڑی آگے نہ چلی والد صاحب حیرت زدہ ہو کر پیچھے لوٹے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ جی اس کو ڈرا رہے ہیں۔ اور آگے جانے سے روک رہے ہیں۔ جب والد صاحب نے دیکھا تو جن زد سے ہنسنے والد صاحب نے فرمایا جیٹو یہ کیا کر رہے ہو۔ کہنے لگے ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا آپ ڈرتے تو نہیں۔ اب ہمیں معلوم ہوا کہ آپ بڑے دلیر ہیں۔ حضرت ناراض نہ ہونا اب ہم جا رہے ہیں۔ یہ کہہ کر سلام دے کر چلے گئے۔ پھر حضرت مرحوم آرام دہلینان سے چل پڑے۔ پھر گھر پہنچ کر گھر والوں کو یہ واقعہ سنایا اور فرمایا رات کو سفر اچھا نہیں ہوتا۔ اور یہ بھی فرمایا کہ اگر رات کو سفر کرنا پڑے تو دائیں بائیں نہ دیکھے سیدھا چلتا جائے اور کسی آواز پر بھی کان نہ دھرے اور نہ کسی روکنے والے کی روک پر کھڑا ہو۔ کیونکہ یہ بات فطرہ سے خالی نہیں۔

(۵) کہتے ہیں کہ آپ اکثر بنگال جا یا کرتے تھے۔ وہاں کے لوگ آپ کے عقیدت مند

تھے۔ وہ آپ کی بڑی خدمت کرتے تھے۔ وہیں سے آپ اچھی معقول رقم لایا کرتے تھے  
پھر وطن آکر اسی پر گذر اوقات کرتے۔

چوبیسویں صاحبہ بیان کرتی ہیں۔ کہ سہارے گھر ایک دیگ تھی۔ جو چاندی کے ردیوں  
سے بھری رہتی۔ اس وقت ضرورت اس سے روپے نکال کر خرچ کئے جاتے تھے  
ایسا اوقات ردیوں سے ننگ آلود ہو جاتے تو انہیں پانی سے دھو کر دھوپ میں خشک کیا جاتا تھا  
اس سے معلوم ہوا کہ دادا صاحب دولت مند افراد میں سے تھے۔ اور انہیں کسی قسم کا معاشی  
کھربہ تھا۔

(۶) دادا صاحب ساری زندگی میں خدائے متعالیٰ کے لئے اور اسی کے لئے انہوں نے  
اپنی زندگی وقف کر رکھی تھی۔ اکثر مسجد میں رہا کرتے پورے شوق سے درس و تدریس کا کام کرتے  
اور دراز علاقوں کے پٹھان طلبہ آپ کے پاس رہتے اور علم دین حاصل کرتے اور آپ ان کو نبی سبیل اللہ  
پڑھاتے اور لوگوں کو حلال و حرام سے آگاہ فرماتے اور ذریعہ معاش کے لئے کھیتی باڑی کا کام  
کرتے اور نہایت سادگی سے وقت گزارتے اور سادہ زندگی کو پسند کرتے اور نہایت خوش اخلاق  
ہونے کے باوجود خوشامد اور چالوسی کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے اور لوگوں کے ساتھ میل جول  
پسند کرتے تھے۔ اور خدا کی مخلوق کی دلجوئی کو اپنا فرض سمجھتے تھے۔ اور بڑے سے بڑے آدمی کو  
تساویٰ دیتے تھے۔ سچی بات کرنے میں کسی کی رعایت نہیں کرتے تھے۔ اور آپ علماء سوء کے لئے  
مکمل تلوار تھے۔ جب علماء کی مجلس میں جاتے تو سب آپ کے سامنے سرنگوں ہو جاتے اور ساری محفل  
آپ سے چھا جاتے۔ پھر آپ نہایت جرات و دلیری سے گفتگو فرماتے اور کسی کو آپ کی بات کاٹنے  
کا جرات نہ ہوتی۔ آپ تدبیر۔ ذہین اور معاملہ فہم شخصیت کے مالک تھے۔ جو قضیہ بد توں کسی سے  
حل نہ ہوتا آپ اس کو چند لمحوں میں حل کر دیتے۔ یہ آپ پر اللہ تعالیٰ کا خصوصی فضل تھا۔ اور شیخ کامل  
کی برکت تھی۔ آپ اکثر لوگوں کے جھگڑے اور نزاع چکاتے۔ اور یہ سارے کام صرف اللہ تعالیٰ کی  
مدد سے ہی کئے جاتے۔

(۷) آپ چونکہ اپنے علاقہ کے مانے ہوئے عالم تھے۔ اس واسطے علاقہ بھر کے جہازوں میں  
آپ کو شامل ہونا پڑتا۔ اور لوگوں کے صدمہ میں شرکت کو ضروری خیال کرتے اور اس موقع پر



اکثر آپ کے ساتھ درس کے طلباء بھی ہوتے۔ علاقہ کے لوگ طلباء کی بڑی خدمت کرتے اور آپ کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔

کہتے ہیں کہ ایک دفعہ جوڑا پنڈ ایک جنازہ پر شاگردوں سمیت تشریف لے گئے۔ اور آپ کے ساتھ امان خان بھی تھے۔ دونوں گھوڑوں پر سوار تھے۔ جب آپ میت دفن ہونے کے بعد واپس ہونے لگے۔ تو اس گاؤں کے لوگوں کا طلباء کے ساتھ جھگڑا ہو گیا۔ آپ کے ساتھ بڑے قوی اور دیوبہیل طلباء تھے۔ جن کو دیکھ کر ڈور لگتا تھا اور اس گاؤں کے لوگ بھی بڑے فسادی اور لڑاکے تھے ان کو اپنی بہادری پر ناز تھا۔ اور ان لوگوں کے ساتھ اتر گرد و نواح کے لوگ بھی شامل تھے۔ لوگوں کا خیال تھا کہ ملاؤں کو مارنا معمولی بات ہے اور طلباء کے پاس کوئی چیز بھی نہ تھی بالکل خالی ہاتھ تھے اور لوگ پوری تیاری میں تھے۔ کہیں ہیں جب لوگ خونی درندوں کی طرح ملاؤں پر جھپٹے اور گھمسان کی جنگ شروع ہو گئی۔ اور حضرت مرحوم نے بھی ساتھیوں کو اجازت دیدی تو طالب علموں نے انہیں سے لاکھیاں وغیرہ پھینک کر انہیں بے تحاشا مارا۔ اور مار مار کر کئی ایک موذیوں کو زمین پر گسا دیا۔ اور جو رہا وہ مقابلہ کی تاب نہ لاتے ہوئے بھاگ کھڑے ہوئے۔ اب صرف میدان میں طلباء ہی نظر آتے اور لڑاکا لوگوں سے کچھ نذر زمین ہو گئے تھے۔ جو خاک و خون میں قلا بازیاں کھا رہے تھے اور اپنے کئے کی سزا بھگت رہے تھے۔ اور جو باقی تھے وہ بھاگ کر گھروں میں گھس گئے تھے اور الامان والحقین کی صدا لگا رہے تھے۔ حضرت دادا صاحب نہایت دلیری و جرات کے ساتھ کھڑے رہے اور آپ کا دوست خان بھی آپ کے ساتھ تھا۔ کہتے ہیں کہ حملہ کے لئے ایک آدمی آپ کی طرف بڑھا اور آپ اس کے ارادہ کو بھانپ گئے تو اس کے قریب آتے ہی زور سے ایک لاکھی اس کو ماری جس کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ دھڑام سے زمین پر گر گئے۔ اتنے میں کچھ طلبہ آپ کے پاس پہنچ گئے اور انہوں نے آتے ہی حضرت کی حفاظت شروع کر دی۔ اس طرح کامیابی کے ساتھ حضرت مرحوم اپنے ساتھیوں سمیت گھر لوٹے۔ اور فرمایا یہ لوگ بڑے شریر اور فتنہ باز تھے۔ اگر ان کی مدافعت نہ کی جاتی تو یہ ہم سب کو خراب کرتے اور ہمیشہ کے لئے دلیر ہو جاتے تو ہر وقت ہمیں تنگ کرتے لہذا ان کے ساتھ

ملا کھلا بڑا کارکن

دو بٹیا بالکل انصاف کے مطابق سوڈا ادھر لوگ جب لڑائی میں ناکام ہوئے  
ان کی بدنامی بھی سہنی کہ ملاؤں سے ہار گئے تو انہوں نے طلباء کے خلاف استخارہ  
چونکہ یہ سارے لوگ خان موصوف کے مزارع تھے۔ اور خان انگریزوں کی طرف  
فیصلے کرنے کا مجبوز تھا اس وجہ سے یہ دعویٰ دادا صاحب کے دوست خان صاحب  
کے پاس دائر کیا گیا۔ چونکہ خان صاحب موقع پر موجود تھا اور پورے حالات سے  
خبر تھا وہ جانتا تھا کہ اس معاملہ میں لوگوں کی زیادتی ہے طلباء کا کوئی قصور نہیں اس  
دعویٰ کے سبب گاؤں کے لوگوں کو بلا کر کہا کہ طلباء کے ساتھ راضی نامہ کر دو ورنہ میں  
پہلیں چھ ماہ کی سزا دیتا ہوں اور تم پر جرمانہ بھی کرتا ہوں۔ لوگ بہتہ گھبرائے اور آخر مجبور  
ہو کر انہوں نے حضرت کے طالب علموں سے راضی نامہ کیا اور اپنی جان چھڑائی اور ان لوگوں نے  
کبھی طالب علموں کو نہ چھیڑا بلکہ ان کی عزت کرنے لگے۔

۱۸ اپہاری مسجد میں پانی کا کنواں ہے۔ حضرت مرحوم اس کی صفائی اور طہارت کا بہت  
توجہ رکھتے تھے اور فرماتے تھے کہ پانی کی طہارت پر عبادت کا دار و مدار ہے۔ اگر پانی ہی پاک  
ہوگا تو پھر نماز کیسے ہوگی۔ اس واسطے آپ نے یہ التزام کر رکھا تھا۔ کہ کوئی جنبی آدمی ڈول  
یا تھوڑا سا لگاٹے۔ اور ہاتھ دھوئے بغیر بھی ڈول کو ہاتھ نہ لگایا جائے۔ اور ڈول نکالتے  
وقت جوتے بھی اتارے جائیں۔ اور ڈول نکال کر زمین پر بھی نہ رکھا جائے۔ اور نیز عورت  
کے ڈول کو ہاتھ نہ لگاٹے اور نہ ہی ڈول نکالے۔ اگر کنوئیں پر کوئی مرد ہو تو اس سے  
پانی نکالنے لگھکے ورنہ کہیں دوسری جگہ چلی جائے۔ چنانچہ دادا صاحب کے زمانہ اور  
مرت والد صاحب کے زمانہ میں پانی بھرنے والے ہاتھ دھو کر جوتے اتار کر کنوئیں سے  
پانی نکالتے۔ اور آج تک عورتیں ڈول کو ہاتھ نہیں لگاتیں اور نہ ہی ڈول نکالتی ہیں۔ اس  
کے آپ کی نقاہت اور فطرت میں گہری نظر کا اندازہ ہوتا ہے۔ اور یہ بھی پتہ چلتا ہے۔ کہ وہ  
کس دین میں کس قدر محتاط تھے۔ اور حفاظت دین کی خاطر ہر تکلیف برداشت کرتے تھے۔  
۱۹ دادا صاحب گاؤں کے بچوں کو بھی پڑھایا کرتے تھے اور چھوٹے بچوں کے پڑھانے

میں کوئی عار نہیں سمجھتے تھے۔ بلکہ اس کام کو زیادہ اہمیت دیتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ ان کو پڑھانا بے حد ضروری ہے۔ بہت سے عالم اس طرف توجہ نہیں کرتے۔ اور ان کو پڑھانے میں شرم محسوس کرتے ہیں۔ یہ ان کی غفلت کی نشانی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک ہمارے گاؤں میں حضرت کے شاگرد موجود ہیں۔ جو مرحوم کا بے حد احترام کرتے ہیں اور حضرت کا نام لیتے ہی ان کی آنکھوں سے آنسو آجاتے ہیں۔ اور ان کے شاگرد اور پاس بیٹھنے والے لوگ کہا کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے استاد کی مثل دین کا بے لوث خادم کوئی نہیں دیکھا۔ ہمارے گاؤں کے ایک خان صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ میں حضرت مرحوم کا شاگرد ہوں اور میں اکثر اوقات ان کے پاس آیا کرتا تھا اور آخر زندگی میں حضرت مجھے بلا بھی لیتے تھے۔ اور اس کا بیان ہے کہ آپ زندگی کے آخری دنوں میں سالک مجذوب ہو گئے تھے۔ اور اکثر گھر میں رہتے تھے میں جب بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا۔ تو مجھے پیار سے فرماتے اور گویا سو یا کہیں قاضی کو نہ خراب کر دینا“ (یعنی اے گمراہ کہیں اپنی صحبت سے قاضی نہ صاحب کو خراب نہ کر دینا) اور میں حضرت کے اس پیار بھرے جملہ کو سن کر تہمتہ لگا کر سنہتا تو حضرت بھی مسکرا جاتے۔ اور پھر گھنٹوں نصیحت آموز کلمات فرماتے اور اٹھنے نہ دیتے اور رخصت کرتے وقت دعائیہ کلمات ارشاد فرماتے اور پھر میں آپ سے رخصت ہوتا۔ اور کئی دنوں تک آپ کی مجلس کا اثر رہتا۔ اور دل میں آپ ہی کا خیال رہتا۔ اور راستہ میں آپ کہیں دیکھ لیتے تو مسکرا دیتے۔ اور میں فرط مسرت سے آپ کو سلام کرتا۔ اور پھر آپ پیار سے بوجھتے کہ ہر جا رہے ہو اور کیا حال ہے۔ اور نیز گاؤں کی بہت سی لڑکیاں آپ کے گھر پڑھنا کرتی تھیں۔ آپ گھر والوں کو تاکید کرتے۔ کہ ان کو پوری کوشش سے پڑھایا کریں۔ اور ان بچیوں کے ساتھ کچھ ایسا پیار فرماتے کہ وہ سارا سارا دن آپ ہی کے گھر بیٹھی رہتیں۔ اور اپنے گھر جانے کا نام تک نہ لیتیں۔ اور کھانے کے وقت فرماتے بچیو۔ یہیں سے کھانا کھاؤ پھر لڑکیاں وہیں کھانا کھاتیں اور وہ حضرت کے گھر کو اپنا گھر تصور کرتیں۔ آج تک ہمارے گاؤں میں وہ عورتیں بھی موجود ہیں کہ جنہوں نے حضرت مرحوم کے گھر پڑھا۔ اور حضرت کو بڑے مولوی صاحب کے نام سے یاد کرتی ہیں۔ اور اب بھی نام لیتے ہوئے شرم و حیا اور ادب و احترام سے جھک جاتی ہیں۔

اور آپ کے بابرکت زمانہ کو یاد کر کے روتی ہیں۔

۱۱) دادا صاحب کو فقہی مسائل میں بے پناہ جہارت تھی۔ اسی واسطے آپ فقہ الحصر کے بلند پایہ لقب سے مشہور تھے۔ اور آپ مسائل میں بہت تحقیق کرتے تھے۔ اور اس بارے میں حدیث تھی۔ کہتے ہیں کہ ایک دائرہ صحنی ہونڈ سے آدنی نے آپ کی غیر موجودگی میں اذان دی آپ کو علم ہوا تو اس کو فرمایا کہ تم نے کیوں اذان پڑھی ہے پھر کبھی ایسا نہ کرنا۔ اگر میں شوق ہے تو اذان کے قابل صورت بناؤ۔ فرمایا کرتے تھے کہ بہت سے ایسے کام ہیں جو انسان ان کو معمولی سمجھ کر گزرتا ہے۔ اور ان کے کرنے میں کوئی جھجک محسوس نہیں کرتا اور حقیقت وہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں۔ کہ جن کے کرنے سے آدمی فاسق ہو جاتا ہے۔ مثلاً بچے پھرتے کھانے کو میوے نہیں سمجھا جاتا۔ مگر فقہاء کرام لکھتے ہیں کہ ایسا کرنے سے آدمی فاسق ہو جاتا ہے۔

۱۱) دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دھال سے تین ماہ پہلے بتا دیا تھا۔ اور ضروریوں سے بھی آگاہ کر دیا تھا۔ اور غسل اور نماز جنازہ دونوں کی قبلہ والد صاحب کو خصوصی ہیئت فرمادی تھی۔ فرماتا تھا اللہ تعالیٰ رحمۃً واسعۃً۔

چنانچہ حضور قاضی محمد عبدالسبحان صاحب نے ہی آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ اور آپ کو جامع مسجد کھلابٹ کی دائیں طرف درخت بوہڑ کے پاس دفن کیا گیا۔ حضرت موصوفی موجودہ بنی ہونی قبر حضرت والد صاحب قاضی محمد عبدالسبحان صاحب نے حضرت کے دھال کے ر کے کافی عرصہ بعد مؤلف حالات ابو الغنح غلام محمود کے دیکھتے بنائی۔ قبر دریائے کے پتھروں سے بنوائی۔ حضرت والد قاضی صاحب قبر بچی بنانے سے بہت گریز کیا کرتے۔ اور پختہ قبر نہ تو بنواتے تھے اور نہ ہی بنوانے کی اجازت دیتے تھے۔ چنانچہ حضور صاحب نے اپنے والد ماجد کی قبر دریائے دوڑ کے پتھروں کو مسٹر پول سے توڑوا اور اسے ان سے قبر بنوائی۔ اور صرف پتھروں کے پچھلی میں سیمنٹ لگوایا۔ لپائی سیمنٹ سے بنوائی۔ حضور والد صاحب فرماتے تھے کہ میرے والد حضرت محمد منظر جمیل صاحب حضرت صاحب آجاں شریف والوں سے علم ظاہری پڑھ رہے تھے۔ تو اس وقت حضرت

صاحب آدان شریف کے فقر و ولایت کا عام شہرہ نہ تھا۔ مگر حضرت والد صاحب محمد مظہر جمیل صاحب کے آدان شریف سے واپس آنے کے کچھ عرصہ بعد حضرت صاحب آدان شریف کے فقر و ولایت کا شہرہ سنا تو حضور عزیز نواز کی خدمت میں خط لکھا جس میں حضور عزیز نواز سے آدان شریف میں اپنی حاضری۔ اور آپ سے بیعت کی اجازت مانگی۔ حضرت والد جناب قاضی محمد عبدالسبحان صاحب فرماتے تھے کہ حضور عزیز نواز نے اس خط کے جواب میں شیخ سعدی علیہ الرحمۃ کا یہ شعر لکھا۔

سے بد زیاد و منافع بے شمار است وگر خواہی سلامت بر کنار است

یعنی دریا کے اندر موتی اور فائدے تو بہت ہیں۔ لیکن اگر تم سلامتی چاہتے ہو تو وہ کنارے پر ہی ہے۔ حضرت والد قاضی محمد عبدالسبحان صاحب فرماتے تھے کہ حضور والد جناب محمد مظہر جمیل صاحب نے حضور عزیز نواز کے اس اشارے پر دھیان نہ دیا۔ جو حضور عزیز نواز نے شیخ سعدی کا شعر لکھ فرمایا تھا۔ بلکہ سیدھے آدان شریف جا حاضر ہوئے۔ اور حضور عزیز نواز سے بیعت کر لی۔ حضرت والد صاحب قاضی محمد عبدالسبحان صاحب ہی فرماتے تھے کہ پھر ایک موقع پر حضرت والد جناب محمد مظہر جمیل صاحب نے حضور عزیز نواز آدان شریف کی خدمت میں عرض کیا کہ حضور میری ساری اولاد آپ کے حوالے ہے۔ اس پر حضور عزیز نواز نے ذرا منہس کر فرمایا کہ مولوی جی ساری اولاد تے حوالے ہاں ہاں کر و متاں تکلیف نہ ہو جاوے۔ مگر حضرت والد صاحب جناب محمد مظہر جمیل کے اصرار پر حضور عزیز نواز خاموش ہو گئے۔ سو لطف حالات کے والد صاحب جناب قاضی محمد عبدالسبحان صاحب فرماتے تھے۔ کہ حضرت صاحب آدان شریف کا طریقہ عشق الہی کا طریقہ اور بہت سخت محنت کا طریقہ تھا۔ اور حضرت صاحب بڑی بڑی شاق محنتیں کر کے اس فقر کو حاصل کیا تھا۔ اس کو برداشت کرنا آسان نہ تھا۔ اس لئے حضرت صاحب نے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا تھا۔ مگر قبلہ والد جناب محمد مظہر جمیل صاحب کے خیال شریف میں بوجہ فقر و عشق الہی کے طریقہ کی طرف انتہائی رغبت و شغف کے وہ بات نہ آئی۔ اور حضور سے بیعت بھی کر لی۔ اور اپنی ساری اولاد کو بھی حضور کے حوالے کر دیا۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ تکلیفیں اور طرح طرح

کی پریشانیوں شروع ہو گئیں۔ چنانچہ بڑی بھوپھی صاحبہ (جن کا مزار موضع درڑی کے قبرستان میں ہے، کے رشتہ کے بارے میں بہت پریشان رہے۔ ان بھوپھی صاحبہ کا رشتہ جناب قاضی صاحب موہڑی والوں کو دیا گیا تھا۔ جو پاپہ تکمیل تک نہ پہنچ سکا۔ اور بالآخر پریشانیوں پر منتج ہوا۔ ناچا کی اختلافات ہو گیا اور رشتہ نہ دیا جاسکا۔ پھر ان رشتوں کے سلسلہ میں مولوی غلام یحییٰ (کھلاہٹ) امام مسجد سٹھالوں والی اور ڈاکٹر سید محمود چچا زاد بھائی) کے ساتھ بھی رنجش و ناراضگی پیدا ہو گئی۔ اور یہ سب قدرتی امر تھا۔ حضرت والد (جناب قاضی محمد عبدالسجان صاحب) فرماتے تھے کہ میرے والد (جناب محمد مظہر جمیل صاحب) حضرت بابا صاحب قاسم صاحب حضور اعلیٰ موہڑہ شریف کوہ نوری کی خدمت میں بھی تشریف لے گئے تھے۔ اور حضرت موہڑی کی خدمت میں حاضری حضرت صاحب آدان شریف سے بیعت ہونے سے کچھ عرصہ پہلے ہوئی تو حضرت صاحب موہڑہ شریف والوں نے فرمایا کہ چند دن یہاں ٹھہرو۔ اور پھر فرمایا کہ میں تمہیں خلافت بھی دیتا ہوں اور چند دن بھی اور اس کے ساتھ روزانہ کا نقدی وظیفہ بھی دست غیب سے تمہیں ملا کرے گا۔ مگر حضرت محمد مظہر جمیل صاحب نے عرض کیا کہ حضرت مجھے ان چیزوں سے رغبت نہیں مجھے تو عشق الہی کی ضرورت ہے۔ چنانچہ وہاں سے واپس آگئے اور پھر عشق الہی کا تلاش میں آدان شریف پہنچے اور وہاں سے ایسا عشق خرید لیا کہ قدرتی طور پر مصائب و تکالیف کا سیلاب اٹھ آیا۔ اور تکالیف و پریشانیوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ وہ آپ پر ہی ختم ہو گیا۔ بلکہ آپ کے صاحبزادے (حضرت قاضی محمد عبدالسجان صاحب) کی تمام زندگی ان قدرتی پریشانیوں میں گزری اور سنہوزہ سلسلہ جاری ہے۔ حضرت والد (جناب قاضی محمد عبدالسجان صاحب) فرماتے تھے کہ میرے والد صاحب نے جو اپنی تمام اولاد حضرت صاحب آدان شریف کے حوالے کر دی تھی۔ اس کا یہ اثر تھا کہ میری ایک ہمشیرہ مجذوب ہو گئی۔ جو اب تک زندہ اور مجذوب ہی ہے۔ حضرت والد (جناب قاضی محمد عبدالسجان صاحب) یہ بھی فرماتے تھے کہ آدان شریف کا طریقہ بہت سخت ہے۔ میرے والد صاحب سے حضرت صاحب آدان شریف والوں سے بیعت کے بعد روزانہ کے معمولات و وظائف

مشاغل عملیات بھی چھوٹ گئے تھے۔ اور ان میں کافی فرق پڑ گیا تھا۔

## حضرت مولانا محمد منظر جمیل صاحب کے شاگردان

حضرت فقیہ اعظم موصوف و مذکور کا حلقہ درس بہت وسیع تھا۔ دور دراز کے طلباء آپ سے استفادہ کے لئے حاضر ہوا کرتے تھے۔ آپ کے طلباء شاگردوں میں مولوی عبدالقادر صاحب ساکن مقام پٹی منٹھ دیپور (بنگال) تقسیم ملک کے بعد کئی سال تک زندہ ہی تھے۔ اب ان کے بارے میں معلوم نہیں۔ مولف حالات ابوالفتح غلام محمود کو مولوی عبدالقادر صاحب کی حضرت سے نسبت شاگردی کا علم پہلے نہ تھا۔ اور جب یہ فقیر مدرسہ رحمانیہ ہری پور میں مدرس تھا تو ان نفس میں میرے نام رسالہ دارالعلوم دیوبند کسی نے بھیج دیا۔ بعد میں مولوی صاحب نے خط بھی میرے نام لکھا جس میں یہ ظاہر کیا گیا کہ میں تمہارے دادا صاحب کا شاگرد ہوں۔ اور اگر کسی کتاب کی ضرورت ہو تو مطلع کرو۔ یہ رسالہ ماہنامہ دارالعلوم دیوبند دو سال تک میرے نام جاری رہا۔ حضرت فقیہ اعظم کے شاگرد بہت وفادار ہوتے تھے۔ خود شیخ الاسلام جامع شریعت و طریقت آفتاب پاکستان حضرت والدہ قاضی محمد عبدالسببان صاحب بھی یہ بات فرمایا کرتے تھے۔ کہ میرے شاگرد اتنے وفادار نہیں جتنے کہ حضرت والدہ فقیہ اعظم صاحب کے تھے۔ حضرت فقیہ اعظم کے شاگردوں میں مولوی حکیم فضل الرحمن صاحب ساکن باہنڈی منیم علاقہ خانپور منٹھ ہزارہ بھی تھے۔ جو بعد تک زندہ رہے۔ اور اکثر کھلاہٹ آیا کرتے تھے اور رہا کرتے تھے۔ خدا بخشے بہت زندہ دل آدمی تھے۔ مولف ناچیز ابوالفتح غلام محمود کو بچپن میں کاندھوں پر اٹھا لیا کرتے تھے اور ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے کہ میرے لئے دعا کرو۔ ایک بچے سے طالب دعا ہونا ان کی عقیدت کا منظر تھا۔ جو ان کو اس خاندان سے تھی۔ حضرت والد صاحب کا بہت احترام کرتے تھے۔ بہت زندہ دل آدمی تھے مجلس میں اکثر طلباء کو اپنی گفتگو سے ہنساتے رہتے تھے۔ ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ اور اپنے گاؤں باہنڈی منیم میں دفن کئے گئے ہیں۔ حضرت فقیہ اعظم کے شاگردوں میں پٹھان حکیم صاحب (جواب موضع کھوئی رٹ)

ضلع میرپور آزاد کشمیر میں مقیم اور اس علاقہ میں طب و حکمت کے اندر مشہور ہیں) بھی ہیں۔  
 میں (مؤلف حالات ابوالفتح غلام محمود) جب جہلم آیا تو انہوں نے مجھے خط لکھ کر یہ  
 بات بتائی کہ میں آپ کے جدا مجید کاش گروں ہوں۔

خدا کے فضل و کرم سے اس خاندان کا فیض مشرق و مغرب تک پھیلا ہوا ہے۔ کوئی  
 جگہ ایسی نہیں جہاں اس خاندان کا فیض یافتہ موجود نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ان بزرگوں پر  
 خصوصی رحمت فرمائے۔ کیا دین کی خدمت کر گئے ہیں۔

حضرت فقیر اعظم کے زمانہ میں کھلا بٹ کے اندر نماز جمعہ ادا نہیں کی جاتی تھی۔ مگر بروز  
 جمعہ وعظ ہوا کرتا تھا۔ یاد پڑتا ہے کہ غالباً والد صاحب نے فرمایا تھا کہ یہ وعظ بروز جمعہ  
 صبح کی نماز کے بعد ہوا کرتا تھا۔

فقیر العصر حضرت مولانا محمد مظہر جمیل صاحب کی تاریخ وصال معلوم نہیں ہو سکی۔ قریباً  
 ۱۰ سال پہلے آپ کا انتقال ہوا تھا۔ اور آپ کو حضرت کی مسجد کی دائیں طرف دفن کیا گیا۔

## محدث عمر حضرت مولانا محمد خلیل صاحب کے حالات

حضرت مولانا محمد خلیل صاحب محدث، شیرسرحد شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد غوث  
 کے چھوٹے صاحبزادے تھے۔ والد صاحب فرماتے تھے کہ آپ بہت خوب رو اور خوش حصال  
 تھے۔ دس پارے قرآن پاک یاد تھا۔ عموماً روزانہ پڑھ دیتے تھے۔

آپ نے دورہ حدیث حضرت مولانا احمد حسن صاحب کانپوری علیہ الرحمۃ سے کیا  
 تھا۔ حدیث میں داخل علم پایا تھا۔ تمام عمر حدیث ہی پڑھتے رہے۔ یہ حضرت مؤلف حالات  
 ابوالفتح غلام محمود کے حقیقی نانا سوتے ہیں۔ میرے والد صاحب کی شادی اپنے معزز و  
 مہربان چچا یعنی حضرت موصوت کی صاحبزادی سے ہوئی تھی۔

حضرت موصوت کی اپنی شادی تربلیہ کے ایک معزز خاندان میں مرکزی البتی موضع  
 کوبرہ کے بازار والی بڑی جامع مسجد کے عالم کی لڑکی سے حضرت مولانا محمد غوث صاحب  
 کی زندگی میں ہوئی تھی۔ جو کہ بیماری نانی سوتی ہیں۔



حضرت موصوف کے ان کے بطن سے سات لڑکے اور ایک لڑکی پیدا ہوئی۔ قضاے الہی سے تین لڑکے ایک سفہتہ کے اندر چھپک کی مملک بیماری سے انتقال کر گئے۔ اور دوسرے بھی کوئی خسرہ کی بیماری سے اور ایک بچپن میں آلو بخارا گلے میں پھنس جانے کی وجہ سے اور یونہی دوسرے قضاے الہی سے انتقال کر گئے۔ صرف ایک لڑکی باقی رہ گئی۔ جس کی انہوں نے ہمارے والد صاحب سے شادی کر دی موصوف کے صاحبزادوں (جو کہ ہمارے رشتہ میں ماموں سموتے ہیں) کی قبریں کھلابٹ کے مشہور قبرستان بیریاں میں جنازہ گاہ کے مقام سے جنوب کی طرف قبرستان کے کنارے پر جنازہ گاہ کے قریب ہی واقع ہیں۔

محدث صاحب موصوف نے اپنی تمام زندگی درس حدیث و قرآن اور عبادت میں گذاری بہت متقی۔ عبادت گزار اور ضالم الدھر بزرگ تھے۔

آپ کا صلہ درس بہت وسیع تھا۔ دور نزدیک کے لوگ آپ سے فیض یا ب سوئے۔ آپ کے تلمذ اخلاق کی وجہ سے بہت سے لوگوں نے باسانی آپ سے فیض پایا ہے۔ آپ کے شاگردوں میں سے اب بھی بعض لوگ موجود ہیں۔ مثلاً مولوی عبدالحکیم صاحب ساکن داڑی۔ اور مظفر خان صاحب ساکن کھلابٹ وغیرہما۔ جو آپ سے فارسی وغیرہ پڑھے رہے ہیں۔ یہ لوگ اب بھی محدث صاحب موصوف کو ہمیشہ یاد کر کے انوس کرتے رہتے ہیں۔ سنا ہے کہ آپ نے دوسری شادی موصوف و صغیرہ سے کی تھی۔ مگر اس سے کوئی اولاد نہ ہوئی۔

تمام بیٹوں کے یوں انتقال کر جانے کا آپ کے دل پر بہت اثر ہوا۔ جس سے آپ بہت رنجیدہ رہنے لگے۔ چونکہ کسی کام میں آپ کی طبیعت نہیں لگتی تھی۔ حج بیت اللہ شریف کی تیار فرمائی اور ہمارے کنوئیں سے نیچے کالاخان پٹھان کے باغ سے اس طرف جو ساڑھے پانچ کنال زمین بند کے نام سے موسوم ہے غالباً حضرت موصوف ہی کی خرید کردہ تھی۔ یہ عبدالرحمن برہمی پر مبلغ پانچ صد روپے میں رہن کر دی اور روپے لے کر حج کے لئے تیار فرمائی۔ رخصت کے وقت لوگوں نے کہا یہ خدا آپ کو سلامت واپس لائے، فرمایا یہ دعوت کرو۔ بلکہ یہ دعا کرو کہ اب خدا مجھے ہمیشہ وہیں عرب میں رکھے۔

حضرت کی یہ دعا ایسی مقبول ہوئی۔ کہ حج بیت اللہ سے فراغت کے بعد آپ کو وہیں

بخار ہووا۔ اور اسی بخار سے آپ مکہ معظمہ میں ہی انتقال کر گئے۔ خدا کی ان پر ہزار ہزار رحمتیں ہوں۔ آپ نے اپنے بعد ایک بیوہ یعنی بیماری نانی صاحبہ اور ایک صاحبزادی یعنی بیماری والدہ چھوڑیں۔ بیماری نانی صاحبہ بہت پرہیزگار اور عبادت گذار تھیں۔ اکثر اوقات نوافل، تہجد، قرآن مجید کی تلاوت، نورنامہ، دعائے عکاشہ، وغیرہ اوراد و وظائف پڑھتی رہتی اور اکثر روزہ سے ہوتی تھیں۔ ہر ماہ ایام بیض - یعنی تیرھویں - چوبیسویں - پندرہویں - اور جمعہ جمعرات کا روزہ کو خاص طور پر قضا کرتی تھیں۔ حضرت موصوف کے زمانہ میں تو دودو بھینسیں رکھی ہوتی تھیں اور دودھ مکھن، گھی کی ریل پیل تھی۔ مگر حضرت کے وصال کے بعد نانی صاحبہ نے بقیہ تمام عمر زندہ اور فترتیں گذاری ہے۔ خدا ان پر رحمت کرے۔

بیماری نانی صاحبہ مرحومہ بچپن میں ہمیں اپنے خاندانی بزرگوں کے واقعات سنایا کرتی تھیں۔ ایک دفعہ سنایا تھا کہ میرے نانا صاحب بہت بڑے بزرگ اور صاحب کرامات تھے آپ نے ایک دفعہ کسی وجہ سے دیوار دوزادی تھی۔ اور ایک دفعہ اپنے گھر میں درخت پیر کے نیچے معدنی بچھائے بیٹھے تھے کہ کسی بچے نے پیر پر پھردے مارا۔ فرمایا: "شالا کر کے سگ لہجیں۔ چنانچہ پھر جلد ہی ہی وہ درخت سوکھ گیا۔"

نانی صاحبہ کا خاندان ایک علمی اور بزرگ خاندان تھا۔ علم فقہ میں یہ بزرگ بہت مشہور تھے۔ نانی صاحبہ کا انتقال ۱۹۵۶ء میں موضع کھلاہٹ میں ہوا۔ آپ تمام عمر بڑے اجی صاحب کے مکان میں جو کہ آپ کے بھوٹے صاحبزادے مولانا محمد خلیل صاحب کو درخت میں ملا تھا وہیں اور پھر وہیں سے آپ کا جنازہ اٹھایا گیا۔ حضرت والد صاحب نے جنازہ پڑھایا۔

مؤلف حالات (ابوالفتح غلام محمود) اس وقت اشرف المدارس اوکاڑہ میں صدر مدرس تھا۔ نانی صاحبہ مرحومہ کو کھلاہٹ کے مشہور قبرستان بیریاں میں سپرد خاک کیا گیا۔ خدا ان پر رحم کرے۔

مولانا محمد منظر ہرچیل صاحب

صاحبزادہ قاضی محمد عبدالسبحان	مرحوم	دختر	مرحومہ	دختر	مرحومہ	دختر	مرحومہ
-------------------------------	-------	------	--------	------	--------	------	--------

مولانا محمد منظر جمیل صاحب فقیہ العصر کی شادی موضع چلیچہ پنڈ میں مولانا عبدالغفور صاحب ہزار دی ختم وزیر آبادی کی بھوپھی صاحبہ سے ہوئی تھی۔ اس لئے مولانا عبدالغفور صاحب ہزار دی کے ہمارے والد صاحب کے حقیقی ماموں کے بیٹے ہیں۔ ہماری دادی صاحبہ کو داڑھی کے مشہور قبرستان میں بڑے اجی صاحب کے پہلو میں دفن کیا گیا ہے۔ اور ہماری بڑی بھوپھی صاحبہ جنہوں نے تمام عمر شادی نہیں کی تھی اور تمام عمر زہد و تقویٰ اور عبادت میں گزار دی۔ اکثر روزے سے ہوتی تھیں۔ سہ ماہ میں ایام بیض اور جمعہ جمعرات کے روزے کا ناغہ نہ ہوتا تھا۔ تہجد بھی ہمیشہ پڑھا کرتی تھیں۔ خدا بخشے اکثر ہمیں بچپن میں باتیں سنایا کرتی تھیں۔ بہت خوش مزاج اور خوش طبع تھیں۔ کسی سے کچھ مانگنے کو پسند نہیں کرتی تھیں۔ یہاں تک کہ اپنے بڑے بھائی ہمارے والد صاحب سے بھی کچھ کہنا دنیا کے معاملات میں پسند نہ تھا۔ محلے کی بچیوں کو ہمیشہ قرآن پاک پڑھایا کرتی تھیں۔ اور یہ محلے کی بچیاں ان کی خدمت بھی کرتی تھیں۔ فصل کے موقع پر غلہ والد صاحب ان کو پہنچا دیا کرتے تھے۔ بڑی ہارسا خاتون تھیں۔ خدا رحمت کرے۔ ان کے انتقال پر میں دستوں حالات ابو الفتح بھوٹ بھوٹ کہ بہت رو دیا تھا۔ آپ کو داڑھی کے قبرستان میں ان کی والدہ صاحبہ کے پہلو میں دفن کیا گیا ہے۔ مرحومہ سے چھوٹی بہن کی شادی اپنے بھوپھی زاد قاضی محمد حسین صاحب موضع ڈھینڈہ والوں سے ہوئی۔ جن سے دو لڑکیاں پیدا ہوئیں۔ اور بہت دعاؤں اور منتوں نذروں کے بعد ایک لڑکا پیدا ہوا۔ مگر افسوس کہ زندہ نہ رہ سکا اور کچھ عرصہ کے بعد انتقال کر گیا لڑکیوں میں سے ایک پر فالج گرا وہ بے کار ہو کر کچھ عرصہ زندہ رہنے کے بعد فوت ہوئی اور دوسری کی شادی ان کے پردھی اور قاضی محمد حسین صاحب مرحوم کے رشتہ دار خان صاحب کے لڑکے سے ہوئی۔ اور کچھ عرصہ زندہ رہ کر بغیر اولاد ہی فوت ہو گئی۔ ہماری بھوپھی صاحبہ کی قسمت میں کچھ اسی طرح لکھا ہو گا۔ بہت پریشان حال ہے بے چاری۔ قاضی محمد حسین صاحب نے نرینہ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے دوسری شادی قاضی شمس الدین صاحب درویش والوں کی ہمشیرہ سے کر لی تھی جس سے دو لڑکے پیدا ہوئے۔ بدرالدجی اور شمس الضحیٰ جو اب زندہ موجود ہیں اور اچھے ہشیار اور پڑھے لکھے ہیں۔ بڑے کی شادی بھی ہو چکی ہے۔ قاضی محمد حسین صاحب

بچو بچی صاحبہ سے شادی کر لینے کے بعد کھلا بٹ رہ کر حضرت والد صاحب سے  
 اس نظامی کی چند کتابیں بھی پڑھی تھیں قاضی حسین صاحب کا انتقال ہو گیا ہے۔ ڈھینڈہ  
 رھیلیاں میں بڑی جائیداد کے مالک تھے۔

بماری تیسری بچو بچی صاحبہ جو نا اعلیٰ حیات ہیں۔ مجذوبانہ طبیعت رکھتی ہیں۔ کسی سے  
 دل ہلا پ اور محسوس و گفتگو کو پسند نہیں کرتیں۔ زایدانہ قسم کی زندگی گزار رہی ہے۔ شادی  
 نہیں ہوئی۔

## حالات زندگی حضرت قاضی صاحب مرحوم

حضرت قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت باسعادت ۱۲۹۸ھ میں ہری پور  
 بارہ کے ایک مشہور گاؤں کھلا بٹ میں خاندان قریش کے ایک شہرہ آفاق علمی خاندان  
 میں ہوئی۔

حضرت مرحوم کی پیدائش سے پہلے آپ کے والد مولانا محمد مظہر جمیل رحمۃ اللہ علیہ کے گھر  
 ایک لڑکا پیدا ہوا۔ جس کا نام عبدالغنی رکھا گیا۔ یہ لڑکا کچھ عرصہ کے بعد فوت ہو گیا جس کی  
 وفات سے والدہ کو بے حد صدمہ ہوا۔ وہ ہر وقت روتی رہتیں۔ جب آپ کے دادا حضرت  
 مولانا محمد عوث صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی بہو کو پریشان دیکھتے تو فرمایا کرتے۔ بیٹی مت رونا کرو  
 اللہ تعالیٰ تجھے لڑکا دے گا جو دینی کتابوں کا وارث ہو گا۔ مگر میں نہیں سوں گا۔ چنانچہ  
 اللہ تعالیٰ نے اپنے مقبول بندہ کی پیش گوئی کو حرف بحرف پورا کیا کہ کچھ عرصہ کے بعد حضرت  
 مولانا محمد عوث صاحب مرحوم کا دصال ہو گیا۔ اور حضرت قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش  
 ہوئی اور واقعی آپ دادا مرحوم کی کتابوں کے وارث ہوئے۔ اور اپنے علمی کارناموں سے  
 لوگوں کو سیراب کیا۔

## تحصیل علم اور اساتذہ کرام

ایک جمید اور نامور قاری صاحب جو منہج کیمبل پور کے رہنے والے تھے حضرت قاضی صاحب

نے ان سے قرآن مجید پڑھا۔ پھر ابتدائی چند کتابیں والد صاحب سے پڑھیں۔ کچھ فارسی نظم و نثر کی کتابیں ڈاکٹر عبداللہ خان مرحوم سے پڑھیں اور علم طب بھی ان ہی سے حاصل کیا۔

## ڈاکٹر عبداللہ خان صاحب

یہ ڈاکٹر صاحب موصغ کانڈلی راجو کھلابٹ کے متصل ایک چھوٹا سا گاؤں ہے (کے ریلوے والے تھے۔ خواجہ محمد صدیق صاحب مستونگی نقشبندی کے خلیفہ مجاز تھے اور نہایت زاہد و عابد اور خدا ترس بزرگ تھے۔ زہد و تقویٰ اور سخاوت میں بے نظیر شخصیت کے مالک تھے ڈاکٹر صاحب اور صاحب یونانی میں بہارت تاملہ رکھتے تھے۔ دور جوانی میں سول سرجن رہ چکے تھے۔ سخا کا یہ عالم تھا کہ جب گھرنیشن لے کر آئے تو مقروض تھے۔ ان کی یہ عادت تھی کہ بیوہ عورتوں اور یتیم بچوں اور نادار لوگوں کو ماہانہ دیا کرتے تھے۔ فارسی میں یہ طوطی رکھتے تھے۔ فارسی اردو پنجابی۔ پور بی زبانوں پر کامل عبور تھا۔ بلکہ ان زبانوں کے بلند پایہ شاعر تھے۔ مندرجہ ذیل کتابوں کے مصنف بھی تھے۔

۱۔ امسلس کریا۔ یہ فارسی منظوم کلام ہے اور کلام سعدی پر تفسیر ہے۔

۲۔ خمس محمود نامہ یہ بھی فارسی کلام ہے اور اصل کتاب پر تفسیر ہے

۳۔ تحفہ سلیم۔ (۱۳) گلشن حکیم۔ یہ دونوں بھی فارسی منظوم کلام ہے اور حضرت سعدی

کے طرز کا کلام ہے ۱۴۔ شمس الانام یہ پنجابی نظم ہے ۱۵۔ قصہ حضرت ایوب بنی ۱۶۔ یہ بھی پنجابی کلام

اور منظوم ہے۔ ۱۷۔ رنیتی ساکد یہ فارسی نثر میں ہے اور اس میں اسلامی تصوف کے مسائل ہیں

موقع بہ موقع اشار بھی ہیں۔ ۱۸۔ سفر نامہ حجاز۔ اس میں حرمین شریفین کے سفر کے مفصل حالات ہیں

اردو کلام ہے۔ ڈاکٹر صاحب مرحوم کی تمام تصنیفات مطلوبہ ہیں۔ اگر چہ اب نایاب ہیں۔ مگر

میں سے بعض سہاے کتب خانہ میں موجود ہیں۔

میں نے خود والد صاحب سے سنا کہ فرماتے تھے کہ میرے استاد محترم بے حد وہیب اور

شخصیت کے مالک تھے۔ اور پر انوار چہرہ والے تھے۔ اور بے حد کوشش کے باوجود چہرہ کی

دیکھا نہیں جاسکتا تھا۔ اور یہ بھی میں نے حضرت والد سے سنا تھا کہ جب ڈاکٹر صاحب کا

آیا تو مجھے بلا بلا اور کچھ دقتیں فرمائیں۔ پھر میری موجودگی میں آپ کو نزع کی تکلیف شروع  
 کی۔ اور حضرت کو ایک دن یہ تکلیف رہی اور اس قدر شدید تکلیف رہی۔ کہ تہہ حاضرین  
 ان رہ گئے اور میں بھی پریشان ہو گیا۔ اور اس سوچ میں پڑ گیا کہ وجہ کیا ہے۔ یہ تو خدا سیدہ  
 ان ہیں۔ ان کو اس قدر تکلیف کیوں ہو رہی ہے۔ جب حضرت کا انتقال ہوا تو پھر آپ  
 نے خواب میں فرمایا قاضی جی مجھ پر یہ تکلیف حال کی وجہ سے تھی۔ ابتلاء معصیت کی وجہ  
 سے نہ تھی۔ آپ کے اس پر معنی ارشاد سے میری تسلی ہو گئی۔ والد صاحب مرحوم نے ہی  
 کو غسل دیا اور تمہیز و تکفین کا اہتمام و انتظام کیا۔ آپ کا مزار موضع کاندل میں اُس  
 نئے سے قبرستان میں ہے کہ جو برب لہ سڑک ہے۔

## مولانا عبد اللہ صاحب استاد

حضرت قاضی صاحب نے سائل منطق حضرت مولانا عبد اللہ صاحب سے پڑھے۔ یہ مولانا  
 نے پڑھانے کے رہنے والے تھے۔ پڑھانہ کھلابے سے ڈومیل کے فاصلہ پر برب لہ سڑک  
 کی چھوٹا سا گاؤں ہے۔ یہ سڑک ہری پور کو جاتی ہے۔ حضرت قبلہ ہر روز سین پڑھنے  
 کے لئے دہان جایا کرتے تھے۔ فرمایا کرتے تھے کہ میرے استاد مولوی عبد اللہ صاحب  
 اتنی کتابیں پڑھانے میں اور طالب علم کو چلانے میں بڑے ماہر اور تجربہ کار تھے۔ اور بے حد کے  
 تھے۔ ویسے بڑے مشفق اور کرم فرما تھے۔ پڑھانے وقت بے حد سخت گیر تھے کسی قسم کی  
 عیب نہیں کرتے تھے یہی وجہ تھی۔ کہ آرام پسند طلبہ ان سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے تھے چند  
 روز میں بھاگ جاتے تھے۔ میرے ساتھ ان کو بے حد محبت تھی۔ مگر پڑھانے وقت سب سے  
 وہ مجھ پر سختی کرتے تھے۔ اس قدر رعب تھا کہ پاس جانے وقت ان کو دیکھتے ہی پسینہ  
 آتا۔ جب ان کی سختی کو دیکھتا تو کسی بار ارادہ ہوتا کہ کہیں بھاگ جاؤں۔ مگر ان کی محنت  
 و دھرم ارادہ روک دیتا۔ اگر ذرا بھی آنے میں دیر ہو جاتی تو سخت ناراض ہوتے  
 فرماتے صاحبزادے کسی کام کے نہیں ہوتے اور پھر یہ جملہ ارشاد فرماتے۔ اعوذ باللہ  
 البان والگان۔ یعنی میں بان اور گان سے خدا کی پناہ مانگتا ہوں۔ بان سے مراد وہ

ہیں جن کے آخر میں لفظ بان آتا ہے جیسے ٹانگہ بان۔ شتر بان۔ کشتی بان وغیرہ اور گان  
 سے مراد بھی وہ ہیں کہ جن کے آخر میں لفظ گان آتا ہے جیسے صاحبزادگان۔ یہ حضرت بے  
 ذہن تھے۔ ان کی ذہانت کا ایک واقعہ جو میں نے قبلہ والد صاحب کی زبانی سنا سپرد قلم  
 کرتا ہوں۔ سو واقعہ سنئے اور خود اندر زہ لگائے کہ واقعی آپ کس قدر کے ذہین تھے۔  
 کہتے ہیں ایک دفعہ کسی عرس کے موقع پر چھوہر شریفین میں عطار اور طلبہ کا اجتماع ہوا  
 اس اجتماع میں حضرت مولانا محمد اسماعیل <sup>صاحب</sup> موضع کوکل والے بھی شریک تھے۔ یہ علم نحو کے  
 بلند پایہ عالم تھے۔ ان کے کتب خانوں کو زبانی یاد دہتیں اور بڑے عظیم الحیثہ اور بارہب شخصیت  
 کے مالک تھے۔ جب مولانا نے طلبہ کا یہ اجتماع دیکھا تو ان سے مخاطب ہو کر کہنے لگے اوطالب  
 کیا پڑھتے ہو۔ طالب علموں نے مختلف کتابیں بتائیں۔ پھر حضرت مولانا کہنے لگے حضور  
 زیدؑ کی کیا ترکیب ہے۔ کون کے قاعدہ کے مطابق انہوں نے کہا ضرب فعل اور زید فاعل  
 ہے۔ پس مولانا نے ان کی ترکیب پر یہ اعتراض کیا کہ لفظ زید فاعل ہے یا معنی زید فاعل  
 اگر یہ کہو کہ لفظ زید فاعل ہے۔ تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ لفظ زید نے تو نہیں مارا  
 اور اگر کہو معنی زید فاعل ہے تو اس پر تعریف فاعل کی صادق نہیں۔ اب بتاؤ تم کیا کہتے  
 ہو۔ مولانا کے اس اعتراض کو سن کر سارے طلبہ محو حیرت ہو گئے اور سب پر سکوت طاری  
 ہو گیا۔ جب حاضرین میں سے کسی نے کوئی جواب نہ دیا تو مولانا نے ان کے درمیان پھر ناشرو  
 کر دیا۔ اور ہر ایک کے پاس جا کر باری باری پوچھنے لگے پھر بھی کسی نے کوئی جواب نہ  
 دیا۔ جب آخر کار حضرت مولانا محمد اسماعیل صاحب مولانا عبد اللہ صاحب کے پاس سے گزرے  
 تو ان سے دریافت فرمایا کہ تم بتاؤ انہوں نے بلا جھجکی فرمایا کہ کئیوں کے نزدیک تو لفظ  
 زید فاعل ہے۔ اور تمہارے نزدیک معنی فاعل ہوگا۔ جب مولانا نے یہ جرات مندانہ جواب  
 تو فرمایا اوطالب تو تے بڑا ڈھڈا اسی۔ یعنی اے طالب علم تم تو بڑے دلیر ہو۔  
 قبلہ والد صاحب کے باقی اساتذہ کرام کے اسمائے گرامی یہ ہیں۔  
 مولانا صاحب موضع گرجان والے (۱) حضرت مولانا قطب الدین صاحب عور غشتو (۲)

مولانا شیر بہادر مارٹونو کی ہم مولانا صاحب موضع انٹی ڈارہ، مولانا عبد الباقی صاحب - (۱۶)  
 مولانا سید حکیم برکات احمد صاحب ٹونکی، مولانا عبد السمیع صاحب بہاولپور مولانا  
 کاظم صاحب (۱۷) حضرت مولانا محمد خلیل صاحب محدث ہزاروی۔

حضرت مولانا صاحب موضع گریٹن والوں کے پاس حضرت والد صاحب کچھ عرصہ  
 رہے۔ یہ مولانا عذرت زمان حضرت خواجہ پیر مہر علی شاہ صاحب گولڑوی قدس  
 سرہ کے ممتاز اور خصوصی تلامذہ میں سے تھے۔ کہتے ہیں مولانا صاحب عرصہ آٹھ سال  
 حضرت صاحب سے پڑھتے رہے اور اس مدت میں صرف فن منطق حاصل کیا۔ گریٹن  
 علاقہ سے مغرب کی طرف تقریباً چار کوس کی مسافت پر ایک گاؤں ہے۔

علامہ زمان حضرت مولانا قطب الدین صاحب یہ بہت بلند پایہ فاضل تھے۔ اور  
 نوم میں یگانہ روزگار تھے۔ اور بے حد صاحب فیض تھے۔ بے شمار لوگ ان سے  
 بے سوچے اور درجہ کمال تک پہنچے۔ حضرت والد صاحب نے زیادہ تر ان ہی سے  
 سیکھا۔ والد صاحب ان کو ہمیشہ یاد کیا کرتے تھے۔ اور بڑے احترام سے نام پکارتے  
 اور نام لینے وقت جھوم جاتے تھے۔ اور چہرے پر آثار لبثا شت چھابتے تھے۔  
 مولانا ریاست مینڈو رجو کہ ہندوستان میں ایک ریاست کئی انڈریس کے لئے  
 لے گئے تو والد صاحب کو بھی کمال شفقت کی بنا پر ساتھ لے گئے۔ والد صاحب فرمایا  
 تھے کہ حضرت الاستاذ میرے ساتھ بے حد پیار کرتے تھے۔ یہاں تک کہ میرے لہیز کھانا  
 کھاتے تھے۔ الزمن حضرت مولانا آپ کے بڑے مشفق اور قابل قدر استاد تھے۔

حضرت مولانا شیر بہادر صاحب یہ بھی والد صاحب کے استاد تھے۔ یہ حضرت  
 خان بہادر صاحب جو آج کل ریاست سوات میں دارالعلوم حقانیہ میں شیخ الحدیث  
 ہیں۔

مولانا صاحب گجرات موضع انٹی کے رہنے والے تھے۔ اور بڑے مشہور فاضل تھے  
 ان کی شہرت سن کر ان کے پاس پڑھنے گئے اور چند مہینے مولانا سے استفادہ  
 کیا۔ مولانا کشف و کرامت کے مالک تھے اور نہایت پاک باز اور ریاست گو



السنان تھے۔ اور نہایت سادہ مزاج رکھتے تھے اور لباس بھی معمولی پہنتے تھے۔ نہایت صاف آدمی تھے۔

## فہرست مضامین

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۲۷	درس	۲	شجرہ نسب
۳۳	مطالعہ کتب میں انہماک		حضرت مرزا شیخ گل بیگ صاحب
۳۴	اولاد	۳	کی کھلا بٹ میں آمد
	حضرت مولانا محمد مظہر جمیل صاحب		حضرت شیخ عبدالعزیز صاحب
۳۶	کے حالات	۳	کے حالات
	حضرت قبلہ قاضی صاحب آدان شریف		حضرت شاہ شیر محمد صاحب غازی
۳۶	کا ذکر خیر	۵	کے حالات
۶۵	سید و شریف کی حاضری		حضرت مولانا محمد عنوث صاحب
	حضرت اخوند صاحب کے	۷	کے حالات
	حالات	۱۲	مدینہ منورہ میں حاضری اور تدریس
۸۲	خلفا و مریدین	۱۵	مناظرے
۸۳	حضرت میاں صاحب (حضرو)	۱۶	جانڈاد
	حضرت صاحب آدان شریف کے	۱۸	مکانات
۸۴	باقی حالات	۱۹	مناظرے

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
	حضرت بابا صاحب تیراہی کے حالات -	۸۵	حضرت شاد بدولہ دربار کی حاضری
	حضرت مولانا محمد عنوث صاحب کے بقیہ حالات	۸۷	زارات اولیاء پر حاضری
۱۱۳	حضرت مولانا محمد معصوم صاحب کے حالات	۸۸	حضرت سلیمان پارس رحیم نکی حاضری
	حضرت مولانا محمد منظر ہیل صاحب کے حالات	۸۹	کرامات
۱۲۵	حضرت مولانا محمد خلیل صاحب کے حالات	۹۳	تاریخ وصال
۱	حضرت مولانا محمد منظر ہیل صاحب کے حالات	۹۴	حضرت شاد بدولہ گجراتی کے حالات
۱۲۷	حضرت موصوف کے شاگردان	۹۷	شاد بدولہ صاحب کے چوپے
۱۳۰	حضرت مولانا محمد خلیل صاحب کے حالات	۹۹	حضرت پیرے شاہ غازی کے حالات
۱۳۱	حضرت قاضی محمد عبدالسبحان صاحب کے حالات	۱۰۴	حضرت میاں محمد بخش صاحب شری شریف کے حالات
۱۳۵	ڈاکٹر عبدالعزیز خان صاحب کے حالات	۱۰۶	حضرت قاضی آدان شریف کے شاہ عظام
		۱۰۶	حضرت صاحبزادہ محبوب عالم صاحب کے حالات
		۱۰۶	حضرت مستری احمد بخش صاحب (رتہ) کے حالات
		۱۰۹	حضرت سائیں چپ صاحب کے حالات

# فن حدیث پر بہترین تازہ تصنیف لاروہ عمدۃ الاصول فی حدیث الرسول

تصنیف قاضی ابوالفتح غلام محمود صاحب۔ مولوی فاضل ہنسی

خطیب جامع عید گاہ جہلم  
ذیر نظر کتاب میں ضرورت حدیث، حدیث کی تعریف۔ علم حدیث کی تقریر  
حدیث کا موضوع۔ غرض و غایت۔ حدیث کی اقسام۔ تواتر کی چار قسمیں  
خبر و احد کی پہلی تقسیم۔ دوسری تقسیم۔ صحیح، صحیح الاسناد، حسن، و حسن الاسناد  
فرق۔ اصح الاحادیث فی الدنیا کون سی حدیث ہے۔

امام ابو حنیفہ تابعی تھے۔ حدیث حضور بنی بریم کے زمانہ اقدس میں  
لکھی گئی اس کے حوالے۔ حدیث صحابہ کے زمانہ کے لکھے جانے کے حوالے۔  
امام بخاری کے حالات۔ کل احادیث کی تعداد۔ صحیح بخاری شریف  
احادیث کی تعداد، جامع ترمذی کی خصوصیات۔ امام ابو حنیفہ کا حدیث  
میں مقام۔ امام اعظم کے ۵ مسابند کا ذکر۔ روایت بالمعنی کے بارے  
محدثین کے آٹھ قول۔ بیان کتب حدیث وغیرہ ایک ستر عنوانات کے  
قابل قدر تحقیق و راجح ہے۔

قیمت ایک روپیہ۔ علاوہ محصول ڈاک

ملنے کا پتہ

کنب خانہ عوثیہ، نہریہ۔ جی ٹی روڈ جہلم







## سوانح مہر یہ

تصنیف - مولانا غلام سرور جادری

اس کتاب میں غوثِ دوراں علامہ زماں خواجہ پیر سید  
مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حالاتِ زندگی  
تفصیل سے بیان کئے گئے ہیں، معتقدین حضرات کے  
لئے اس کا مطالعہ نہایت ضروری ہے۔

کاغذ سفید ہدیہ - ۱۳۱۳ ہجری



ملنے کا پتہ

- ★ کتب خانہ غوثیہ مہر یہ جی لی روڈ جادہ جہلم
- ★ دفتر جمعۃ العلماء پاکستان جادہ جہلم
- ★ مکتبہ اسلامیہ گنج بخش روڈ لاہور

**Légende**

**Lieux habités**

a constructions serrées

a constructions esparses

zone industrielle zone commerciale

maison four, bâtiment officiel

bâtiments

**Voies de communication**

autoroute, route à deux voies, parking, en

route surélevée

grande route, 6 m ou plus de largeur

numero de route (autoroute, route européenne)

route secondaire, 4 à 6 m de largeur

chemin carrossable, a revêtement léger

chemin d'exploitation

sentier, piste

sentier alpin, piste, sentier à travers le vey

tunnel routier, tunnel ferroviaire

chemin de fer à voie normale, a deux voies ou

chemin de fer à voie étroite, funiculaire

tramway, chemin de fer industriel

telepherique, chemin de fer suspendu, persona

pont passerelle

bac pour voitures, bac pour piétons

**Limites**

frontiere d'Etat

frontiere interallemande

limite de "Land"

limite de "Regierungsbezirk"

limite de "Kreis"

limite de terrain d'entraînement ou de manœuv

limite de réserve naturelle

**Signes divers**

drigue, carrossable, non carrossable

déblai, terrain instable au-dessus de mines

ligne à haute tension, 110 kV et plus

église a clocher unique, a clochers multiples

cimetière, chapelle, église sans clocher

phare, feu, balise

château, château fort, monument

ruine de château, ruine de château fort, casei

station d'épuration, puits, réservoir d'eau

poste d'émission, tour, tour qui est point géo

cheminée, isolée, intégrée; point géodésique

aérodrome; mine; en exploitation; abandonné

moulin à vent; grotte; tumulus

petit remblai, avec haye; sans haye

arbre bien en vue

carrière, fosse; doline

terrain camping, tremplin de ski; terrain de

point géodésique avec cote; point cote

**Legend**

**Populated Places**

densely built-up

moderately built-up

industrial area, commercial area

multistory building; important building

buildings

**Lines of Communications**

autobahn, divided highway, lay-by, under construction

elevated highway

all-weather road, hard surface, 6 m wide or more

route markers, autobahn, European international; national

all-weather road, hard surface, 4 to 6 m wide

all-weather road, loose surface

fair or dry-weather road, loose surface

footpath, fire lane

track, trail, corduroy road

tunnel, road, railroad

railroad, normal gauge, multiple track, station

railroad, normal gauge, single track, halt

railroad, narrow gauge, cog railroad

streetcar, industrial railroad

aerial cableway, suspended monorail, people; material

bridge, footbridge

vehicular ferry, passenger ferry

**Boundaries**

international

inner German

"Land"

"Regierungsbezirk"

"Kreis"

training area

nature reserve

**Miscellaneous Cultural Features**

levee, dike; carrying road, no road

cut, undetermined ground

powerline, 110 kv and more

church; one spire; two or more spires; triangulation station

cemetery, chapel, church without spire

lighthouse light; beacon

castle; monument

ruins of a castle; abandoned bunker

sewage disposal plant; well; water tank

radio facility; tower; triangulation station

chimney, isolated; coincident with building; triangulation station

airfield, mine; active; inactive

windmill; cave, barrow

mound; with hedge; without hedge

prominent tree

quarry; pit; sinkhole

camping ground; ski-jump; sports ground

triangulation station with elevation; spot elevation

**Relief**

Zeichen  
 1.000 m  
 2.000 m  
 3.000 m  
 4.000 m  
 5.000 m  
 6.000 m  
 7.000 m  
 8.000 m  
 9.000 m  
 10.000 m  
 11.000 m  
 12.000 m  
 13.000 m  
 14.000 m  
 15.000 m  
 16.000 m  
 17.000 m  
 18.000 m  
 19.000 m  
 20.000 m  
 21.000 m  
 22.000 m  
 23.000 m  
 24.000 m  
 25.000 m  
 26.000 m  
 27.000 m  
 28.000 m  
 29.000 m  
 30.000 m  
 31.000 m  
 32.000 m  
 33.000 m  
 34.000 m  
 35.000 m  
 36.000 m  
 37.000 m  
 38.000 m  
 39.000 m  
 40.000 m  
 41.000 m  
 42.000 m  
 43.000 m  
 44.000 m  
 45.000 m  
 46.000 m  
 47.000 m  
 48.000 m  
 49.000 m  
 50.000 m  
 51.000 m  
 52.000 m  
 53.000 m  
 54.000 m  
 55.000 m  
 56.000 m  
 57.000 m  
 58.000 m  
 59.000 m  
 60.000 m  
 61.000 m  
 62.000 m  
 63.000 m  
 64.000 m  
 65.000 m  
 66.000 m  
 67.000 m  
 68.000 m  
 69.000 m  
 70.000 m  
 71.000 m  
 72.000 m  
 73.000 m  
 74.000 m  
 75.000 m  
 76.000 m  
 77.000 m  
 78.000 m  
 79.000 m  
 80.000 m  
 81.000 m  
 82.000 m  
 83.000 m  
 84.000 m  
 85.000 m  
 86.000 m  
 87.000 m  
 88.000 m  
 89.000 m  
 90.000 m  
 91.000 m  
 92.000 m  
 93.000 m  
 94.000 m  
 95.000 m  
 96.000 m  
 97.000 m  
 98.000 m  
 99.000 m  
 100.000 m

Figure du terrain







